

Digitized by Khilafat Library Rabwah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفضل

نمبر ۱۰ | قادیان دارالامان مورخہ ۲۶ جون ۱۹۲۸ء | جلد ۱۵

حضرت امام جماعت ایدہ کی تحریک کی نظر کا ملبی

ساکے ہندوستان میں اجون کو عظیم الشان جلسے

مسلمان ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے افراد کے اجتماع

اتفاق و اتحاد و اوری اور خوش اخلاقی کے نظار

خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو کامیابی حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ المدینہ منورہ کی تحریک ۱۷ جون کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لیکر دینے کو عطا فرمائی ہے۔ اور جس اخلاص اور دلی تپاک سے نہایت معزز اور تعظیم یافتہ اصحاب نے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کسی قدر ذکر گذشتہ پرچہ میں اجاب کی نظر سے گذر چکا ہے۔ اب مزید اطلاعات درج کی جاتی ہیں۔ جو اکثات ہند سے پہنچی ہیں :-

بانی اسلام مسلمان لکھنؤ و اخلان کا شاندار مظاہرہ

۱۷ جون لکھنؤ کی تاریخ میں بے نظیر جلسہ

زیر صدارت جناب منشی احتشام علی صاحب رئیس

معزز علماء کی تقریریں

لکھنؤ ۱۷ جون۔ لکھنؤ کی تاریخ میں اس سے زیادہ بے نظیر مجمع کبھی نہیں ہوا۔ جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان باقاعدہ لیکچر دس کے مرقعہ پر ہوا۔ جو ۱۷ جون کو دئے گئے۔ ہر طبقہ کے مقامی سرکردہ اصحاب نے دلی مسرت کے ساتھ اس جلسہ کے انعقاد میں مدد دی۔ اور تمام مسلمانوں نے پورے جوش کے ساتھ جلسہ کو کامیاب بنانی

کی کوشش کی کسی قدر آندھی اور توجیح کے بعد موسم صفا ہو گیا۔ اور مولانا صبغتہ اللہ صاحب شہید فرنگی مملی شاہ سیدمان صاحب پھلوری مولوی اللہ تاج صاحب قادیان اور شمس العلماء سید سبط حسن صاحب نے امین الدوز پارک میں زائد از پانچ ہزار حاضرین کے سامنے چار گھنٹہ تک نہایت مؤثر اور پُر زور تقریریں کیں۔ حاضرین بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ منشی احتشام علی صاحب رئیس کا کوری جو خدمات اسلام سر انجام دینے کی وجہ بہت ہر دو عزیز ہیں۔ اتفاق رائے سے صدر جلسہ منتخب ہوئے تھے۔ حاضرین کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا۔ کہ ہر سال ایسے اجلاس منعقد کئے جائیں :- (محمد عثمان)

روٹری میں جلسہ

روٹری کلب ۱۷ جون۔ کل بروز اتوار جلسہ کیا گیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر

ماسٹر عبدالرحمن صاحب۔ میر مرزا احمد صاحب۔ بابا کریم علی صاحب اور بابو مراد علی صاحب نے تقریریں کیں۔ پبلک نہایت محفوظ ہوئی۔ مسلمان بے اختیار ہو کر بلند آواز سے سبحان اللہ اور زور و شہادت پڑھ رہے تھے۔ لمبی دعا کے بعد جلسہ کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ (سیکرٹری انجمن احمدیہ)

بھاؤنگر (کامیاب) میں مسلمانوں کا متحدہ جلسہ

بھاؤنگر ۱۸ جون۔ زیر ہدایت صیغہ ترقی اسلام قادیان بھاؤنگر کا ٹھکانہ دار کے ہندو اور مسلمانوں کا ایک غیر معمولی متحدہ جلسہ ۱۷ جون کی رات کو زیر صدارت مولانا عثمان صاحب منعقد ہوا۔ حاضرین اس قدر زیادہ تھے۔ کہ اس سے قبل یہاں ایسا عظیم الشان جلسہ کبھی نہیں ہوا۔ ہندو اور مسلمان لیکچر اردو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے کارہائے نمایاں پر لیکچر دئے :- (عبدالغفور)

مونگھیر میں کامیاب جلسہ

زیر صدارت مسٹر جی پرشاہ صاحب سٹیج مونگھیر ۱۸ جون۔ ۱۷ جون کے شام ٹاؤن ہال مونگھیر میں زیر صدارت مسٹر جی پرشاہ صاحب سبب جمع ایک عام جلسہ منعقد کیا گیا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور تعلیم پر لیکچر دئے گئے۔ مقامی انجمن احمدیہ نے ان جلسوں کا انتظام اس خیال سے کیا تھا کہ پبلک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ اور اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں۔ ان کو دور کیا جائے۔ ہندو مسلمان شرفاء کثیر تعداد میں حاضر تھے۔ پروفیسر عبدالقادر صاحب ایم۔ اے آف اسلامیاہ کالج کلکتہ نے انگریزی میں اور حکیم خلیل احمد صاحب نے اردو میں تقریریں کیں۔ مسٹر اس کے کید ڈپٹی مجسٹریٹ نے گہری دلچسپی لی۔ اور جلسہ ہر طرح کامیاب رہا۔ (سیکرٹری انجمن احمدیہ)

کیمپل پور میں جلسہ

کیمپل پور ۱۸ جون۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایات کے ماتحت ۱۷ جون کو جامع مسجد کے سامنے جلسہ منعقد کیا گیا

Digitized by Khilafat Library Rabwah

جس کے تین اجلاس ہوئے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک ہوئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی پاکیزہ قربانیوں پر مولوی محمد جی صاحب۔ جناب محسن مرزا صاحب۔ جناب ملک فضل الہی صاحب اور جناب میر حضرت شاہ صاحب پلیڈر نے تقریریں کیں۔ جلسہ کامیابی سے ختم ہوا۔
(سیکرٹری انجمن احمدیہ)

حیدرآباد دکن میں ہمتا شاندار جلسہ

زیر صدارت جناب نواب یار جنگ ناظم امور مذہبی

معزز اصحاب کی شمولیت

حیدرآباد دکن - ۸ جون - یوم رسول صلی اللہ وسلم نہایت اعلیٰ پیمانہ پر بیڈنیسی کے علاقہ میں نواب فیاض علی صاحب کی کوشی پر جو خوب جگہ گرا رہی تھی۔ زیر صدارت جناب نواب صدر یار جنگ ناظم امور مذہبیہ ریاست حیدرآباد منایا گیا۔ منتظمین میں جناب ناصر حسین صاحب۔ جناب بہاؤ مرزا صاحب اور جناب خلیل زماں صاحب کے علاوہ اور بھی بیسٹھ اور تعلیم یافتہ اصحاب تھے۔ حاضرین کی تعداد جن میں ہندوؤں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ دو ہزار سے زائد تھی۔ ہزار کیسی بیسی سرکشن پر شاہ کی نعتیہ نظموں جو خاص اس موقع کے لئے لکھی گئی تھیں۔ خوش السحانی سے پڑھی گئیں۔ جناب نواب اکبر صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک مؤثر تقریر کی۔ اور آپ کو بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن ثابت کیا۔ نیز آپ کی قربانیوں اور پاکیزہ زندگی پر روشنی ڈالی۔ نواب صاحب کے بعد حمید مقفود علی صاحب نے بیان کیا۔ کہ ہماری ہمسایہ اقوام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم اپنے رسول کی خاطر جانیں تک دینے کو تیار ہیں۔ جلسہ بہت کامیاب ہوا۔ منتظمین اور احمدی دانشور جنہوں نے تسلی بخش انتظام کیا۔ قابل مبارکباد تھا (بشارت احمد)

آگرہ میں جلسہ

آگرہ - ۱۸ جون - ۱۴ جون کی شام کو مولوی عبدالحی صاحب بجا گلپوری کے زیر صدارت کالی مسجد میں ایک

عظیم الشان جلسہ ہوا۔ مولوی مبارک علی صاحب مولوی عبداللطیف صاحب اور بیڈنیسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لیکچر دئے۔ جلسہ ہر طرح کامیاب ہوا۔
(اللہ جوایا)

جموں میں جلسہ

جموں - ۸ جون - انجمن احمدیہ کے زیر اہتمام مارچون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور تعلیم پر ایک اہل سنت مولوی صاحب کے زیر صدارت لیکچر ہوئے۔ جلسہ میں تمام فرقوں کے مسلمانوں نے حصہ لیا۔ متعصب لوگ مخالفت پر آمادہ تھے۔ لیکن مشککات پر قابو پایا گیا۔
(سیکرٹری انجمن احمدیہ جموں)

ہنتوڑ میں جلسہ

جمعیتہ العلماء کی شمولیت

ہنتوڑ - ۸ جون - جمعیتہ العلماء ہنتوڑ نے ۷ جون کو جلسہ کیا۔ ہندو اور مسلمان ناخوشگوار موسم کے باوجود کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ مولوی محمد اسماعیل حسین صاحب نے زیر صدارت مولوی قاضی معظم حسین صاحب میرج رجسٹرار ہنتوڑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تقریر کی۔
(ابوالعاصم قاسم چودھری)

دہلی میں نہایت شاندار جلسہ

زیر صدارت جناب خواجہ حسن نظامی صاحب

مسلمان اور ہندو معززین کی تقریر

دہلی - ۱۹ جون - ۱۴ جون کو یوم رسول نہایت کامیابی سے منایا گیا۔ جناب خواجہ حسن نظامی صاحب صدر تھے۔ سب مذاہب کے دس ہزار لوگ شامل ہوئے۔ مختلف اسلامی فرقوں کے علماء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ

زندگی پر تقریریں کیں۔ مولوی ظہور حسین صاحب قادیانی نے نہایت وضاحت سے ثابت کیا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل اور وحشی عربوں کو راست یا زا اور پاکیزہ انسان بنا دیا۔ رائے بہادر لالہ پارس داس صاحب آنریری محترم اور لالہ گردھاری لال صاحب تحصیلدار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار زندگی پر وضاحت سے روشنی ڈالی۔ ادنیٰ الذکر صاحب نے حضور کی عظیم النظیر رحمتی۔ کمال عفو۔ اور پاکبازی پر تقریر کی۔ اور بتایا کہ آپ کی تعلیم پر عمل کر کے صلح اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ موخر الذکر نے ایسی مجاہدوں کا خیر مقدم کیا جن میں بنی نوع انسان کے اس عظیم الشان محسن کے غیر مسلم مداحوں کو آپ کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کی تحسین کے لئے موقع بہم پہنچائے جائیں۔
(عبدالحامد سیکرٹری)

سرگودھا میں نانہ مردانہ جلسہ

سرگودھا - ۱۹ جون - انجمن احمدیہ کی مساعی سے باوجود کچھ مخالفت کے ۷ جون کو میونسپل باغ میں زیر صدارت حافظ عبدالعلی صاحب بی۔ اسے جلسہ منعقد ہوا جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک ہوئے۔ جلسہ بیک وقت اشتیاقات اور شمولیت جلسہ میں خاص حصہ لیا۔ مولوی غلام رسول صاحب راجپوت مولوی محمد عبداللہ صاحب اور مولوی عبدالرحمن صاحب بوتالوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم پر فاضلانہ اور دلچسپ تقریریں کیں۔ جن حاضرین بہت متاثر ہوئے۔ مستورات کا ایک علیحدہ جلسہ امام بارگاہ میں ہوا جس میں ہر مذہب کی تین صد کے قریب عورتیں شریک ہوئیں۔ بہت حافظ عبدالعلی صاحب نے مجوزہ مضامین پر تقریر کی۔ اکثریت کی رائے یہ تھی۔ کہ سیکرٹری کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔
(سیکرٹری انجمن احمدیہ)

دہلی میں خواتین کا جلسہ

دہلی - ۱۹ جون - ۱۴ جون دہلی کی مسلم مستورات کا ایک جلسہ کوشی نواب نور دواقہ بیجا ماں میں منعقد ہوا۔ سیکرٹری صاحبہ بختہ اماء اللہ اور دوسری مستورات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور شاندار کارناموں پر تقریریں کیں۔ جلسہ کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔
(سیکرٹری بختہ اماء اللہ)

Digitized by Khilafat Library Rabwah

جلسوں میں شاندار جلسہ

جیسپور۔ ۱۸۔ جون۔ مسلمانان جیسپور نے مولانا ضیاء الدین کے مزار پر ۱۷ جون کو کامیاب جلسہ کیا۔ بہت بڑا مجمع تھا جس میں صاحب رسوخ اصحاب بھی شریک تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور کارنامے نے نمایاں حفاظ محمد یوسف صاحب اور مولوی سید حسین صاحب نے موثر تقریریں کیں۔ ایک غیر مسلم نے دلچسپ لٹ پڑھی جو بہت پسند کی گئی۔ جلسہ کا مقصد اچھی طرح پورا ہو گیا۔ محبوب عالم

پیٹالہ میں مردوں عورتوں کا جلسہ

پیٹالہ۔ ۱۸۔ جون۔ ۱۷ جون کا اسلامی جلسہ جو براجم علی ٹاٹی سکول پارک میں منعقد ہوا بعض مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ حاضری پانچ سو سے زائد تھی۔ جس میں مسلم۔ ہندو۔ سکھ۔ عیسائی۔ سب شامل تھے۔ خواتین کا جلسہ بھی منعقد ہوا۔ اور امید سے بڑھ کر کامیاب ہوا۔ ایم عبدالنذیر صاحب اور عاشق حسین صاحب نے سب التپیکر پولیس کا جلسہ کو کامیاب بنانے میں مدد دینے کے باعث شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ نیز میونسپلٹی پولیس اور انجن خدام قوم و ملت بھی شکریہ کی مستحق ہے۔ (محمد حسین)

مری میں جلسہ

مری۔ ۱۸۔ جون۔ مقامی انجن ترقی اسلام کا ایک جلسہ شیخ محمد عبداللہ صاحب احمدی کے زیر صدارت ۱۷ جون کو مری میں منعقد ہوا۔ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے کارنامے نمایاں پر جو آپ نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی کے لئے کئے ہیں تقریریں کی گئیں۔ اور نظمیں پڑھی گئیں۔ حکیم مرغوب اللہ صاحب مولوی عبدالرحمن صاحب خاکی بی بی سے دو صاحبہ شریفہ صاحبہ اسلام نے تقریریں کیں۔ جنہیں حاضرین نے دلچسپی سے سنا۔ ہندو ملت کے لوگوں نے جلسہ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم سرکاری افسران کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امن قائم رکھا۔ سیکریٹری ترقی اسلام

مانڈے رہبر ہما میں جلسہ

مانڈے۔ ۱۸۔ جون۔ حسب الارشاد حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ ۱۷ جون بروز اتوار یہاں جلسہ منعقد کیا گیا ایک فیر احمدی مولوی محمد ماشم صاحب نے برمی زبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر تقریر کی مسلم اور غیر مسلم حاضرین کی تعداد پانچ سو سے زائد تھی (ٹاکٹر گوہر دین)

اٹاوا میں بہت کامیاب جلسہ

شہر اٹاوا۔ ۱۸ جون۔ میں حل مرتب سے اطلاع دیتا ہوں۔ کہ ۱۷ جون کا مجوزہ جلسہ یہاں خدا کے فضل سے بہت ہی کامیاب ہوا۔ حاضرین کی تعداد جن میں ہندو، سکھ، مسلمان شامل تھے خاصی تھی۔ تقریریں نہایت شاندار اور موثر ہوئیں۔ سید ذوق حسین

بانچی پور میں عظیم الشان جلسہ

ہندو مسلم ممتاز صحا کی تقریریں

ہندو مسلمانوں کے خوشگوار تعلقات

بانچی پور۔ ۱۸۔ جون۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کا مجوزہ ۱۷ جون کا جلسہ کل شام یہاں نہایت کامیابی سے منعقد ہوا۔ مسٹر پی۔ کے سین۔ بی۔ آر۔ سبانی جج ٹاٹی کورٹ۔ مولوی سعید ذاریت مین صاحب احمدی۔ مالو بلدیہ سہائے صاحب۔ ممبر سبیلو کونسل مولوی سعید محمود شیر صاحب۔ اور مولوی عبدالباری محمد ساتی صاحب وکیل نے ہندو اور مسلمانوں کے عظیم الشان مجمع کے رد برد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اسلامیہ نال میں زیر صدارت مسٹر سعید عبدالعزیز صاحب بی۔ آر۔ تقریریں کیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ہندو اور مسلمانوں میں اچھے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں۔ (سعید اختر احمد)

علاقہ چیمبر میں جلسہ

مانڈے کوئل ۱۹ جون۔ جیسا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے تجویز

فرمایا تھا۔ ۱۷ جون کو خیبر کے علاقہ میں قبائل نے جیلے کئے جن میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کامیابی سے ٹکچر دئے گئے۔ سیکریٹری انجن احمدیہ خیبر

بھاگلپور میں کامیاب جلسہ

زیر صدارت بابو اننت پر شاد و صا وکیل

بھاگلپور۔ ۱۸۔ جون۔ ۱۷ جون کو نہایت کامیاب جلسہ ہوا۔ مشہور ہندو لیڈر بابو اننت پر شاد صاحب وکیل صدر تھے۔ ہندو اور مسلمانوں نے تقریریں کیں۔ عبدالماجو

بھیرہ میں جلسہ

زیر صدارت جناب پیر بادشاہ صاحب انزیری ٹریڈ

بھیرہ۔ ۱۹ جون۔ ۱۷ جون کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اظہار کے لئے پیر بادشاہ صاحب انزیری ٹریڈ کے زیر صدارت انہی کی جوہلی میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا حاضرین کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ ہندو سکھ۔ اور تمام اسلامی فرقوں کے لوگوں نے لیکچروں کو پوری توجہ سے سنا لیکچر بہت دلچسپ تھے۔ حاضرین پر اچھا اثر ہوا۔ جلسہ بہت کامیابی کیساتھ ختم ہوا۔

گوجرانوالہ میں جلسہ

گوجرانوالہ۔ ۱۹۔ جون۔ مقامی انجن احمدیہ کے زیر اہتمام یہاں سنگم باغ میں ۱۷ جون کو جلسہ ہوا۔ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تقریریں ہوئیں۔ بدتمتی سے مسلمانوں کی ایک جماعت نے جلسہ کی مخالفت کی جلسہ کی کارروائی تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوئی۔ جس کے بعد حکیم محمد دین صاحب نے رسول پاک کی سیرت پر ایک عمدہ مضمون پڑھا۔ آپ کے بعد شیخ اشتاق احمد صاحب نے ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی۔ جو بہت مقبول ہوئی۔ دوسرے اجلاس میں جناب

فیاض علی صاحب ایڈیٹر فاروق نے نہایت موثر پیرایہ میں رسول پاک کی زندگی کو پیش کیا۔ آپ کے لیدر شیخ بشیر احمد صاحب پلیڈر کی تقریر اسی موضوع پر ہوئی پہنچے حاضرین سے پُر زور اپیل کیا کہ وہ رواداری کی روح اپنے اندر پیدا کریں۔ (سیکرٹری تبلیغ)

سیرام میں جلسہ

زیر صدارت بابو راج بہادر صاحب

سیرام - ۱۹ جون - ۱۶ جون کی شام کو بابو راج بہادر صاحب صدر میونسپلٹی کے زیر صدارت ایک جلسہ عام منعقد ہوا مسٹر رضا حسین صاحب جو ایک سرکردہ آدمی ہیں۔ کے علاوہ مشہور و کلامی موجود تھے۔ مولوی احسان الحق صاحب احمدی نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر موثر تقریر کی، ڈاکٹر فہم الدین صاحب محشر نے اپنی نظم پرچی اور نظم سے پہلے ایک مختصر تہیہ تقریر میں سرور کائنات کی پاکیزہ زندگی کا ذکر کیا، مولانا کریم علی خاں صاحب کیل نے فصیح پیرایہ میں لیکچراروں اور پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ (تبارک حسین)

کوئٹہ میں جلسہ

کوئٹہ - ۱۹ جون - مولوی محمد یعقوب صاحب قادیانی نے ۱۶ جون کو ہر مذہب و ملت کے ایک بڑے مجمع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر دلچسپ تقریر کی۔ جسے حاضرین نے کمال توجہ سے سنا لیکچر ۹ سے ۱۱ بجے تک ہوا۔ سیکرٹری جماعت احمدیہ

منصوری میں جلسہ

منصوری - ۱۸ جون - مجلس تنظیم منصوری کے زیر اہتمام کل ۹ بجے شب ٹاؤن ہال منصوری میں ایک عام جلسہ ہوا۔ لکچر حاجی اسماعیل خاں صاحب پیرس آف اسرائیل و میونسپل کمشنر صدر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور شاندار کیرئیر پر کئی تقریریں ہوئیں۔ جلسہ کا مقصد یہ تھا کہ رسول

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا صحیح نقشہ غیر مسلم اصحاب کے سامنے پیش کیا جائے۔ نیز اس بات پر بھی اس جلسہ میں خاص زور دیا گیا کہ مختلف اخیال اتوار میں رابطہ اتحاد کی استواری کے لئے یہ امر نہایت ہی ضروری ہے۔ کہ مخالف مذاہب پر تصبیحانہ اعتراضات اور دشمنانہ بحث چینی کرنے کی بجائے اپنے مذہب کی خوبیاں پیش کرنے کا دانشمندانہ طریق اختیار کیا جائے۔ پریزیڈنٹ کی باہمی محبت کے جذبات کا اقرار کرنے کے لئے عداوت اپیل کے بعد جلسہ درخواست ہوا۔ (رسید عبدالحی)

گورداسپور میں عظیم الشان جلسہ

زیر صدارت بابو گوردت سنگھ صاحب وکیل

گورداسپور - ۱۸ جون کی شام کو ایک نہایت عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں ہندو۔ ہر فرقہ کے مسلمان اور سکھ موجود تھے۔ حاضرین کی تعداد گورداسپور کے لحاظ سے نہایت غیر معمولی تھی۔ صدارت کیلئے دیوان سنت رام صاحب پیرسٹر کو مدعو کیا گیا تھا۔ لگو وہ وقت پر تشریف نہ لاسکے۔ اسے بابو گوردت سنگھ صاحب وکیل پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن کو صدر تجویز کیا گیا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاک زندگی کے مختلف حصص پر مندرجہ ذیل متقرروں نے بہت عالمانہ رنگ میں روشنی ڈالی۔

شیخ چراغ دین صاحب ایڈوکیٹ۔ پنڈت دیوی شرن صاحب وکیل۔ مولوی محمد طفیل صاحب۔ مرزا عبدالحق صاحب وکیل سید محمد شریف صاحب۔

ان تقریروں سے نہ صرف عوام پر بلکہ تعلیم یافتہ طبقہ پر بھی بہت اچھا اثر ہوا۔ اور غیر مسلم اصحاب جنہوں نے آج تک اہل واقعات رحمۃ اللعالمین کی زندگی کے غالباً کبھی نہیں سنے تھے۔ بہت متاثر ہوئے سرکار سالتما کی صداقت۔ آپ کا عزم۔ اور قرآن مجید سے اندوہناک شہادت ان اوصاف کے متعلق شیخ چراغ دین صاحب ایڈوکیٹ نے۔ پنڈت دیوی شرن صاحب وکیل نے مناقب نبی کریم بیان کرنے کے بعد حضور کا دنیا کے اول العزم نبیوں کی صف اول میں ہونا اور مرزا عبدالحق صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا ایک حصہ جو دنیا کی تمدنی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مولوی محمد طفیل صاحب نے مساوات اسلام اور اسلام کے بزرگوں پر مشیر مذہبیانہ علمائے اور مولوی محمد شریف نے سراجا منیر کی آیت مبارکہ پر وعظ

فرمایا۔ کارروائی کے اختتام پر جناب صدر نے اپنی تقریر کے مدون میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں۔ بلکہ تمام قوموں کے لئے مشعل ہدایت لیکر آئے تھے۔ اور ایک نئے ہند کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی احترام ہے جیسا کہ ہندوؤں کے اپنے اوتاروں کا۔

ملک عبدالحق پیرسٹریٹ لا
سیکرٹری رکن جماعت احمدیہ گورداسپور

منشگڑی میں جلسہ

منشگڑی - ۱۸ جون - کل ۱۶ جون کو حضرت امام جماعت احمدیہ کی تحریک کے مطابق منشگڑی میں ایک جلسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لئے ہوا مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم حضرات بھی کافی تعداد میں تشریف لائے۔ الحمد للہ کہ جلسہ بخیر و کامیابی ہوا۔ خاکر محمد شریف وکیل منشگڑی

چکوال میں جلسہ

چکوال - ۱۸ جون - حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کے مطابق ۱۶ جون ۱۹۶۷ء کو ہر نئے بعد دوپہر نصیحت صوبیدار غلام حسن صاحب مسلمانان چکوال کا ایک جلسہ - جس میں ہندو عیسائی صاحبان بھی بطور سامعین شریک ہوئے۔ اسلامیہ اسکول کے شاندار صدر ہال میں منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد قریباً ایک ہزار تھی سید زمان شاہ صاحب پریڈر ایس۔ ڈی۔ اونسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر قاضی عبد الحمید صاحب پلیڈر نے آنحضرت کی تبلیغ حق میں قربانیوں پر قاضی غلام احمد صاحب پلیڈر نے اہل حق کے لئے آنحضرت مسلم کے نبی نوع انسان پر احسانات کے موضوع پر مفید سنائے جو نہایت دلچسپی سے سنے گئے بعض طلباء گورنمنٹ ہائی اسکول نے نغموں کے پڑھنے اور اپنے تیار کردہ مضامین سنائے میں قابل توجہ برش دکھایا۔ جلسہ ہر طرح سے کامیاب ٹاڈ پور ٹرا

میانوالی میں جلسہ

میانوالی - ۱۸ جون - ۱۶ جون کو دو اجتماعات میں ایک صبح ۷ سے ۹ بجے آنگ اور دوسرا بعد دوپہر ۲ سے ۴ بجے تک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح حیات پر دو لیکچراروں نے جنہیں

Digitized by Khilafat Library Rabwah

ایک اور مجرم صاحب دیکھ بھی تھے۔ لیکر دئے۔

جلسہ کے انعقاد کے متعلق بذریعہ اشتہارات و منادی
پبلک کو اطلاع دی گئی۔ اور پروگرام جلسہ اردو و انگریزی
میں شائع ہوا۔ اور معززین کو بذریعہ خاص رقعہ مدعو کیا گیا
حاضری کافی تھی۔ تعلیم یافتہ اور سمجھدار طبقہ نے بہت دلچسپی
لی۔ اہل ہند نے شرکت کی۔ اور مقابلہ ان میں سے معززین
زیادہ تعداد میں شامل جلسہ سمجھے۔ جلسہ کامیابی کے ساتھ ختم ہوا اور حضرت
رسول کریم کی سیرت کو مختلف زاویوں سے متفرقین نے دلچسپی سے بیان کیا۔
(فاکسار محمد حسی نور محل)

تازہ ضلع اکب میں جلسہ

جلسہ بتاریخ ۱۷ جون ۱۹۲۵ء مسجد باہلی میں منعقد
ہوا جس میں باشندگان تازہ کے علاوہ اہل لیان ٹرینی ہندی
مڑیالہ۔ گھمڑی۔ گھنڈالہ اور شادی پور بھی شامل تھے۔ تلاوت
قرآن مجید کے بعد مختلف اصحاب نے نعت دہلوی پڑھے
جناب خان میاں صاحب نے جلسہ کی اغراض و مقاصد
پہایت بسیرت الفاظ میں بیان کئے۔ بعد ازاں قاضی شمس الدین
صاحب فاضل دیوبندی نے آنحضرت کے اسوہ حسنہ جسمانی
و روحانی کمالات۔ ایشاد برائے امت اور اسلام کی تعلیم
تمام مذاہب کے لئے کے متعلق پہایت شرح تقریر کی۔
بعد ازیں مولوی غلام جیلانی صاحب مستوطن اورنگ آباد نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر روشنی ڈالی
پھر جناب ظفر حسین صاحب چشتی نے نعت پڑھی۔ اور جلسہ
برخواست ہوا۔

جلسہ ہذا کی فوز و کامیابی اور تقریب بدرجہا حسن تکمیل تک
ہونا خان سردار قان صاحب کی ان تفکاک کوششوں کا نتیجہ
ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر دے۔
محمد عبدالرحمان مگر پڑی خطیب جامع مسجد گلاب خان۔ تازہ

نور محل میں جلسہ

نور محل ۱۸ جون۔ جلسہ کی تاریخ سے بہت دن پہلے مختلف
ذرائع سے پبلک خصوصاً مسلمانوں میں اس جلسے کو کامیاب بنانے
کے لئے کوشش کی گئی۔ جو کہ الحمد للہ پوری ہوئی۔ اور مقررہ وقت
پر جس کرا اعلان بذریعہ منادی بھی کرایا گیا تھا۔ ایک محفول
تعداد حاضرین کی جلسہ میں شامل ہوئی۔ معززین شہر مسلمان ہند
اور کچھ بھی حاضر تھے۔

تلاوت قرآن مجید و نعت خوانی کے بعد بصدادت سید
بشارت علی صاحب میونسپل کوشنر۔ کرم جناب محمد اقبال حسین صاحب
احمدی بی اے۔ بی۔ ٹی ہیڈ ماسٹر ڈی۔ بی۔ سکول نور محل کا لیکچر

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر
شروع ہوا۔ آپ کے پہایت سادہ اور سلیس زبان میں مگر نہایت
مؤثر پیرایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح حیات
اس طریق پر بیان فرمائے۔ کہ عام طور پر جو اعتراضات آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کئے جاتے ہیں۔ ان کا
جواب مدلل دیا گیا۔ تقریباً ایک گھنٹہ کی تقریر کے بعد جلسہ
تیز و خوبی ختم ہوا۔ (فاکسار محمد حسی نور محل)

وڈالہ بانگر ضلع گورداپور میں جلسہ

تیز بصدارت سردار تاج سنگھ صاحب
۱۷ جون ۱۹۲۵ء بوقت صبح حضرت غلیفہ ایشاد ثانی ایدہ اللہ
بضرہ کی ہدایات کے ماتحت وڈالہ بانگر میں زیر بصدارت سردار
تاج سنگھ صاحب سفید پوش جلسہ منعقد ہوا۔ شیخ عبدالحمی صاحب
شیخ احمد الدین صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی
کے حالات پر دلچسپ تقریریں کیں۔ جلسہ خدا کے فضل سے نہایت
کامیاب ہوا۔ سامعین پر بہت اچھا اثر ہوا۔ حاضرین کی تعداد
سوا سو کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور کچھ معززین
بھی جلسہ میں شامل ہوئے۔
(فاکسار شیخ سردار علی ایم۔ بی۔ بی ایس)

کوٹ مہیاں ڈیل پور میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء۔ بعد دوپہر حضرت امام جماعت احمدیہ کی
ہدایات کے مطابق موضع کوٹ مہیاں و ڈیل پور میں
شیخ محمد حسین صاحب کی زیر بصدارت جلسہ منعقد ہوا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر تقریریں کی گئیں۔
جن کا سامعین پر نہایت اچھا اثر ہوا۔ سامعین کی تعداد سوا
سے قریب تھی۔ علاوہ بریں ستورات بھی بر عایت پردہ
جلسہ میں شریک ہوئیں۔ جناب شیخ محمد حسین صاحب جناب
خان غلام محمد خان صاحب ریٹائرڈ انسپکٹر پولیس کی انتظامی
مساعی شکر یہ کے قابل ہیں۔ فاکسار شیخ سردار علی ایم۔ بی۔ بی ایس

علی گنج (ضلع ایبٹ آباد) میں جلسہ

علی گنج ضلع ایبٹ آباد۔ بی۔ بی۔ میں کل ۱۷ جون ۱۹۲۵ء جلسہ منعقد
کیا گیا۔ صدر جلسہ عبد الغفور خان صاحب رئیس علی گنج تھے۔
اور مولوی قولہ شاد صاحب قائم گنجی نے رسول کریم کے احکامات پر
مولوی حبیب الدین صاحب نے حضور کی قربانیوں پر۔ اور

میں نے حضور کی پاکیزہ زندگی پر۔ دو صد سے زائد سامعین
کی موجودگی میں تقریریں کیں۔ ستورات کی تعداد پچاس کے
قریب تھی۔ جن کے لئے پردہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ میاں محمد شفیع
خان صاحب و مولوی غالب علی شاہ صاحب صدر جلسہ عبد الغفور
خان صاحب کا میں ممنون ہوں۔
محمد حسین۔ بنگا۔ گھنڈالہ۔ ڈاک فائدہ علی گنج۔

سیکھواں ضلع گورداپور میں جلسہ

حسب احکم حضرت امام جماعت احمدیہ موضع سیکھواں تحصیل گورداپور
میں زیر بصدارت میاں امام الدین صاحب بغرض انہما علوشان
حضرت رسول کریم جلسہ منعقد ہوا۔ بعد تلاوت قرآن کریم
نظم دل محمد صاحب تیرتے اپنی نظم پڑھی۔ اور تقریر بھی کی۔
دوسری تقریر میاں خیر الدین صاحب نے کی۔ سامعین تین سو کے
قریب سلمان۔ ہندو۔ سکھ اور بالیکئی تھے۔
فاکسار محمد احمد عمیل۔

آرہ ضلع گوجرات میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء صبح کے قریب حضرت امام جماعت احمدیہ
ارشاد کے ماتحت جلسہ ہوا۔ تعداد گاؤں کے لحاظ سے کافی
تھی۔ صدر جلسہ مولوی محمد الدین صاحب قرار پائے۔ تلاوت
قرآن کریم کے بعد میاں محمد الدین صاحب ساکن ہتال نے
رسول کریم کی پاکیزہ زندگی پر مضمون سنایا۔ ان کے بعد چودہری
فضل آہی صاحب نے رسول کریم کے واقعات زندگی پر مضمون پر
پڑھا۔ چودہری صاحب کے بعد فاکسار نے رسول کریم کے احکامات
تقریر کی اور علی کے بعد جلسہ بخیر و خوبی ختم ہوا۔ حاضرین بر خاطر خواہ
اثر ہوا۔ فاکسار محمد الدین نشی فاضل آرہ (گوجرات)

موضع بائٹل گنج ضلع ننکرہ میں جلسہ

موضع بائٹل گنج ضلع ننکرہ میں ۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو ۳۷ بجے بعد دوپہر حضرت
امام جماعت احمدیہ کے ارشاد عالی کے ماتحت مسلمانوں کا ایک عام جلسہ
منعقد ہوا۔ جس میں ہندو صاحبان بھی شامل ہوئے۔ تلاوت اور نظم کے
بعد جلسہ کے اغراض و مقاصد بیان کئے گئے اور جناب مولوی محمد دین صاحب
امام مسجد حضور سرور کائنات کی پاکیزہ زندگی کے حالات، نہایت دلچسپ
پیرایہ میں بیان فرمائے۔ جن کو حاضرین نے نہایت توجہ سے سنا۔ اس کے بعد
پریزیڈنٹ صاحب نے اسلامی حکام پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کیلئے
توجہ دلائی۔ سامعین کی تعداد کافی تھی۔
فاکسار ڈاک محمد اشرف سب سٹیشن سرجن۔ بائٹل گنج

شاہ آباد ضلع کرناں میں جلسہ

خدا کے فضل سے ۱۷ جون کو ساڑھے پانچ بجے جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم پڑھی گئی۔ پھر اسٹریٹس میں مدین صاحب نے اپنی نعت شریف سنائی۔ پھر ایک نوجوان نے ایک نظم الفضل سے خوش آگانی سے سنائی۔ اس کے بعد بابو عبدالغنی صاحب سیکرٹری تبلیغ جماعت احمدیہ انبالہ نے تقریر کی جس کے بعد مولوی جلال الدین صاحب نائب علم مولوی فاضل کلاں نے تقریر کی۔ اس کے بعد منشی حبیب اللہ صاحب نے اپنا مفہور پڑھ کر سنایا۔ اور جلسہ برخواست ہوا۔

حکیم قاضی عبدالرزاق و صفیر الحسن مندوہ صاحبان کا تہنل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے جلسہ کے انعقاد میں خاص طور پر مدد دی۔ (درجیم اللہ)

سانگلہ میں جلسہ

۱۷ جون۔ جماعت ہائے جمیور اور چوڑا نوالہ کی طرف سے بمقام سانگلہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ خدا کے فضل سے جلسہ نہایت کامیاب رہا۔ ہم چوہدری عصمت اللہ صاحب و کمیل لائل پور۔ مولانا باقر علی صاحب نجفی مولانا مولوی اسد اللہ صاحب کے شکور ہیں۔ جنہوں نے اعلیٰ تقریروں سے سامعین کو محفوظ فرمایا۔ (محمد اکرم خاں)

بی بی میں جلسہ

پشتو میں تقریریں

حسب ارشاد جناب حضرت امام جماعت احمدیہ بمقام بی بی۔ ۱۷ جون کو جلسہ منعقد کیا گیا۔ جس کے صدر جناب میان جمشید علی صاحب بی۔ اے تھے۔ جناب مولوی میر ولی اللہ صاحب دیوبندی نے پشتو زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کے موضوع پر تقریر پڑھ کر فرمائی:

جناب محمد الطاف خاں صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دنیا پر کے موضوع پر جربستہ تقریر کی۔ جو پشتو میں تھی۔ ان کی تقریر سے حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔ جلسہ ۸ بجے شام تک رہا۔ حاضرین کی تعداد کافی تھی۔ غیر مسلم اصحاب میں سے ڈاکٹر رام لہیا صاحب اور ڈاکٹر گوڑ نامی صاحب جلسہ میں رونق افروز تھے۔

خان نوشیرواں خاں صاحب خلف جناب خان بہادر مقرب خان صاحب نے جلسہ کے انعقاد کے لئے بہ نفس نفیس امداد فرمائی۔ اور تمام سامان عطا فرمایا۔ جزا اللہ خیرا (خواجہ محمد شریف)

ہٹھ میں جلسہ

۱۷ جون شام کو موضع ہٹھ ضلع مظفر گڑھی میں بچے صبح سے ۱۱ بجے دن تک جلسہ کیا گیا۔ تقریباً ۲۰۰ اشخاص کا اجتماع تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات سنائے گئے۔ (غلام غوث)

انبالہ میں شاندار جلسہ

حضرت امام جماعت احمدیہ کا شکریہ

مغزین کی تقریریں

۱۷ جون شام کا جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت ہی کامیاب ہوا۔ لوگ وقت مقررہ پر مسلم ہال میں جمع ہو گئے۔ جناب سید محمد حنیف صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی دینور مسلم ہائی سکول اس جلسہ کے صدر قرار پائے۔ صدر صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں فرمایا۔ ان جلسوں کی غرض حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا ہے۔ ہم ممنون ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے ایسے جلسوں کا منظم طور پر انتظام فرمایا۔ جب مجھ سے صدر ہونے کی درخواست کی گئی۔ تو گو میں اپنے آپ کو ایسے مبارک جلسہ کی صدارت کے لائق نہیں سمجھتا۔ لیکن اس خیال سے کہ شاید یہ بات ہی میرے لئے ذریعہ نجات ہو۔ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ صاحب صدر کی افتتاحی تقریر۔ تلاوت قرآن مجید اور نظم خوانی کے بعد پنجاب کے مشہور لیڈر لالہ دنی چند صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ایڈوکیٹ۔ شیخ محمد ظہیر الدین صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ایڈوکیٹ سکرٹری انجمن اسلامیہ اور مولوی محمد علی صاحب انڈر لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ حاضری بہت زیادہ تھی۔ ہال کچھ کچھ بھرا ہوا تھا۔ اور اکثر لوگ جگہ نہ ملنے کے باعث باہر ہی کھڑے رہے۔ حاضرین میں ہندو مسلمان سبھی مغزین و جہد نیران دکھا اور دوسرا غرضیکہ

ہر طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ عورتیں بھی کافی تعداد میں شامل جلسہ ہوئیں۔ جن کی نشست کا انتظام ہال کی گیلری میں برعایت پردہ کیا گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ جلسہ ہر طرح سے کامیاب ہوا۔ (عبدالغنی)

عیسیٰ خیل میں جلسہ

۱۷ جون۔ بازار دالی مسجد میں زیر صدارت خان نورنگ خاں صاحب ایک عام جلسہ منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن شریف کے بعد تین چھوٹے بچوں نے دو تین نعتیں خوش آگانی سے پڑھیں۔ ایک نظم جس کے سننے سے لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری تھی۔ اس کا پہلا شعر یہ تھا۔

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا
نام اس کا ہے گل دلبر مرا ہی ہے

اس کے بعد قاضی علی نور صاحب دیوبندی نے نہایت مؤثر پیرایہ میں ہندو قوم پر رسول اکرم کے چند احسانات بیان فرمائے۔ بعد ازاں مولوی محمد بخش صاحب مولوی فاضل نے اپنا نہایت عالمانہ اور مدلل مضمون بیان کرنا شروع کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ حضور کے احسانات دنیا والوں پر۔ اور حق تعالیٰ کی قربانیوں پر بیان کیا۔ انہیں لکھا جاتا۔ (محمد افضل)

کبیر والہ ضلع ملتان میں شاندار جلسہ

متعدد علماء اور ایک مغز ہندو کی تقریریں

۱۷ جون۔ کبیر والہ ضلع ملتان میں مسلمانان تحصیل کبیر والہ کا ایک عظیم الشان جلسہ زیر صدارت جناب حاجی احمد خاں صاحب سیال کسین عظیم نرہال منعقد ہوا۔ بعض ہندو اور سکھ اصحاب بھی تشریف لائے۔ صبح ۸ بجے سے ایک بجے تک ہوا اس کے بعد سیرت نجات کے اصحاب کو کھانا کھلایا گیا۔ بعد نماز ظہر دو سزا اجلاس شروع ہوا۔ حاضرین کی تعداد دو ہزار سے تجاوز تھی۔ جوشی کا مقام ہے کہ انجمن مسلمین کبیر والہ کو اس سال شاندار کامیابی ہوئی۔ باہر کے علماء کے علاوہ جناب لالہ گلن ناتھ صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ایڈوکیٹ ریسرٹس عظیم مولانا پور کا بھی لیکچر ہوا جس میں فاضل لیکچر ار نے نہایت عمدگی سے رسول کریم کی سادہ اور پاک زندگی کا خلاصہ سامعین کے سامنے پیش کیا۔ جلسہ میں ہر غریب و ملت کے حاضرین کیلئے بانی و فیروہ کا معتدل انتظام تھا۔ (بہادر خاں ذیلدار کبیر والہ)

موضع بنگہ حیات ضلع نسلمری میں جلسہ

۱۴ جون ۱۹۲۸ء کو صبح ۸ بجے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت مسلمانوں کا ایک عام جلسہ زیر صدارت میاں خدایا رخاں صاحب نے یلدا منعقد ہوا۔ سکول کے اڑکوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظیں پڑھیں اور بعض واقعات جو آنحضرت صلی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر دلالت کرتے ہیں سنائے۔ ماسٹر علم الدین صاحب نے نہایت دلچسپ پتھر دیا جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے بعض واقعات کے علاوہ مسلمانوں کو عام اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ اب وہ تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے ترقی کر سکتے ہیں۔ دوران جلسہ میں حاضرین آنحضرت پر کثرت سے درود بھیجتے رہے۔ نیز یہ تجویز ہوئی کہ ایسے جلسے سال میں دو دفعہ ہوا کریں جلسے کے اختتام پر سکول کے بچوں میں ذیل اوصاف کی طرف سے مٹھائی تقسیم کی گئی اور میاں خان محمد صاحب رئیس بنگہ نے نظیں پڑھنے والے لڑکوں کو نقد انعام بھی عطا فرمایا۔ (نامہ نگار)

موضع موٹی ضلع گجرات میں جلسہ

۱۴ جون ۱۹۲۸ء کو جلسہ بموجب ارشاد امام جماعت اجمیر بصدارت ملک منصبی اسحاق صاحب منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد کافی تھی۔ افتتاحی تقریر چوہدری محمد بخش صاحب چک نمبر ۱۷۰۱ نے کی۔ اور اس کے بعد میاں احمد دین صاحب نے نعت فرمودہ حضرت مرزا صاحب ہمارا پیشوا۔ اور ایک اپنی نعت پڑھی۔ اس کے بعد عاجز کی تقریر ہوئی (محمد براہیم)

شب قدر فورٹ میں جلسہ

۱۴ جون ۱۹۲۸ء کو بوقت سوا آٹھ بجے شام اندرون قصبہ بنگہ گڑھ دست بقدر فورٹ ضلع پشاور میں میدان بالمقابل انجمن احمدیہ شب قدر میں زیر صدارت جناب اکٹر سردار خاں صاحب منعقد کیا گیا۔ حاضرین کی کافی تعداد تھی جس میں معزز مسلمان ہندو و سکھ اصحاب شامل تھے جناب صدر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر محمد الدین صاحب احمدی نے مختصر سی افتتاحی تقریر کی جس میں بتایا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ قادیان کی شریک کے ماتحت اس جلسہ کی غرض یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات۔ اور آنحضرت کے ہی نوع انسان پر احسانات اور قربانیوں پر روشنی ڈالی جائے۔ اور اس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ آنحضرت کی پاکیزہ تعلیم۔

اور آپ کا اسوہ حسنہ قابل تقلید ہے۔ اس کے بعد جناب حکیم عبدالرحمن صاحب نے اپنا مضمون پڑھا جس میں آنحضرت کے پاکیزہ حالات زندگی بیان کئے۔ مضمون دلچسپ تھا۔ حاضرین ہمہ تن گوش ہو کر سنتے رہے۔ جلسہ ساڑھے ۱۰ بجے رات ختم ہوا۔ اور اختتام پر جناب صدر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر محمد الدین صاحب احمدی نے تمام حاضرین جلسہ کا عموماً اور اہل ہنود کا خصوصاً شکریہ ادا کیا جس پر جناب لالہ چھند اس صاحب رئیس قصبہ شکر گڑھ نے فرمایا۔ کہ اگر آئندہ بھی ایسے جلسے جاری رکھے جاویں۔ تو مذہبی جھگڑے بہت حد تک دور ہو کر حقیقی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ (رپورٹر)

موضع ڈفرننگر میں جلسہ

۱۴ جون ۱۹۲۸ء بموجب ارشاد حضرت امام جماعت اجمیر موضع ڈفرننگر ڈاک خانہ دار برٹن ضلع شیخوپورہ میں جلسہ کیا گیا۔ جناب بابو خیر الدین صاحب ٹھیکہ دار صدر جلسہ منتخب ہوئے اور منشی محمد الدین صاحب احمدی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظم نہایت خوش الحانی سے پڑھی۔ بعد ازاں میاں محمد حیات صاحب نے آنحضرت صلعم کے فضائل پر ناز و عنقریب تقریر فرمائی۔ نماز عصر کے لئے پہلا اجلاس ختم کیا گیا۔ اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد صدر جلسہ نے حاضرین کو ہدایت فرمائی کہ آج کا دن فرقہ وارانہ خیالات کے اظہار کا نہیں۔ صرف آنحضرت صلعم کی خاطر جلسہ کیا گیا ہے۔ اس لئے حاضرین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے دلوں کو ہر قسم کے بغض و عناد سے خالی کر کے اور من کے ساتھ تقریریں سنیں۔ اس کے بعد منشی محمد الدین صاحب احمدی نے افضل کے قائم البیتین نمبر سے جناب محمد احمد صاحب احمدی وکیل کی نظم نہایت خوش الحانی سے پڑھی۔ بعد ازاں سید عیاش صاحب احمدی نے آنحضرت صلعم کی سیرت پر مفصل تقریر فرمائی۔ آخر میں تمام حاضرین نے رائے سلطان محمد صاحب منتظم جلسہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور ان کے لئے دعا کی۔ رائے صاحب نے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ حاضرین کی شکریت قاضی کی +

اکھنور ریاست جہوں میں جلسہ

۱۴ جون ایک پبلک جلسہ زیر صدارت ماسٹر محمد صادق صاحب بی۔ لے سبھا کوٹی بوقت ۵ بجے شام بڑی دھوم دہان سے منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن مجید اور نعت و نظیں پڑھنے کے بعد منشی غلام محمد صاحب کٹرئی انجمن اسلامیہ اکھنور نے اپنا

لیکچر رسول کریم صلعم کی قربانیوں پر پڑھا۔ اس کے بعد سید مسعود صاحب یکنڈا ماسٹر اکھنور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات پر لیکچر دیا۔ یہ لیکچر نہایت مؤثر اور دلچسپ تھا۔ ماسٹر صاحب موصوف کے بعد بابو ثناء اللہ صاحب کٹرئی انجمن احمدی نے اپنا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر پڑھ کر سنایا۔ سامعین نے بہت پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہندو اصحاب مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں آئے اور اخیر وقت تک لیکچر کو بڑے شوق سے سنتے رہے۔ غرض کہ جلسہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کامیاب رہا۔ صدر جلسہ نے اپنی صدارتی تقریر میں ہندو اصحاب کا خصوصاً شکریہ ادا کیا کہ انھوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے جلسہ میں شریک ہوئی تھی کیلیف گو اور فرمائی۔ ایسا ہی حاکم وقت ہر لائسنس ہمارا صاحب ہمارے سر ہری سنگھ کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انکو سفر یورپ سے بخیریت واپس ہندوستان لے آئے۔ آخر جلسہ اسلام کی کامیابی کی دعا کے بعد ان کے شب برقا ہوا + خاکسار شیخ سمیع اللہ

صدر گوگیرہ میں جلسہ

۱۴ جون کا جلسہ بخیر و خوبی سر انجام پایا۔ جناب سردار عبدالرحمن صاحب سابق سردار ہک سنگھ قادیانی نے پنجابی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر تقریر کی۔ سامعین کی تعداد تین سو سے زیادہ تھی۔ ہر مذہب کے لوگ موجود تھے۔ (سید محمد حسین)

لکراہلی ضلع گجرات میں جلسہ

۱۴ جون ۱۹۲۸ء کو بوقت ۹ بجے شام قصبہ لکراہلی ضلع گجرات میں جلسہ منعقد ہوا۔ حضرت رسول کریم کے "دو دنیا پر احسانات" اور آپ کی "مبارک زندگی" پر عظیم گنگے پہلی تقریر جناب میاں حسین صاحب قریشی کی تھی اس کے بعد خاکسار کی۔ سامعین کی تعداد کافی تھی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ سننے گئے۔ غلام احمد منتظم بی۔ لکراہلی

بستی مندراہی میں جلسہ

بستی مندراہی میں ۱۴ جون ۱۹۲۸ء کو مولوی حبیب الرحمن صاحب آف تونسہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی قربانیاں اور احسانات پر دو نہایت لطیف لیکچر دیئے۔ نہ صرف مسلمان مرد و کانی تعداد میں موجود تھے بلکہ بہت سی عورتیں بھی شریعت پر درہ جلسہ میں شریک ہوئیں۔ حافظہ فقیر محمد صاحب مولوی محمد ابوالحسن صاحب نے بھی فضائل نبوی پر تقریریں کیں جلسہ نہایت کامیابی ختم ہوا۔ امام بخش

Digitized by Khilafat Library Rabwah

جگندر نگر ضلع کانگرہ میں جلسہ

جگندر نگر ضلع کانگرہ میں ۷ ارجون بعد از نماز مغرب ایک عظیم الشان جلسہ زیر صدارت جناب ملک محمد زاہد خاں صاحب سپرنٹنڈنٹ سسرکل آفس منعقد ہوا۔ تقریباً ۱۰۰۰ حضرات نے شرکت کی۔ (مختصر اخبار)

یاڑی پورہ کشمیر میں جلسہ

آج مورخہ ۷ ارجون ۱۹۲۵ء بروز اتوار بوقت ۱۰ بجے دن زیر صدارت راجہ محمد فیروز الدین خاں صاحب جاگیردار کاروانی جلسہ شروع ہوئی۔ لغت خوانی کے بعد خواجہ غلام محی الدین صاحب سیکرٹری انجمن احمدیہ نے سیرت نبوی پر تقریر فرمائی۔ اس کے بعد محمد نصر الدین خاں نے ایک موثر تقریر کی۔ حاضرین کی تعداد کافی تھی۔

گھوہار ضلع گجرات میں جلسہ

۷ ارجون کو نہایت خوشگن جلسہ ہوا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ حالات۔ مسلمانوں۔ ہندوؤں اور سکھوں کی ایک بھری مجلس میں بوضاحت بیان کئے گئے۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ محفوظ و متاثر ہوئے۔ تقریریں سننے کے بعد انہوں نے بزورِ خواہش ظاہر کی کہ اس قسم کے جلسہ یہاں ہوتے رہیں۔ (رپورٹر)

آمر شاہ جی ضلع گجرات میں جلسہ

۷ ارجون ۱۹۲۵ء کو موضع آمر شاہ جی تحصیل کھاریاں ضلع گجرات میں زیر صدارت سید قاسم شاہ صاحب جلسہ منعقد ہوا۔ اول حافظ فضل شاہ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پھر منشی محمد عالم صاحب ساکن ٹھل نے جناب ڈاکٹر میر محمد صاحب کی نظم سلام بجنور سیدالانام پڑھی۔ ۱۲ بجے حافظ سید فضل شاہ صاحب ساکن قاضی باقر کالیکر شروع ہوا۔ جس میں حافظ صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت مخلوق پر آپ کی مہربانیاں اور اسوہ رسول کریم

کی پاکیزہ زندگی کے حالات اور اہل عالم پر آپ کے احسانات بیان کئے گئے۔ مولوی سید عالم صاحب امام مسجد اقصیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل و احوال پر ایک عربی فارسی نظم حاضرین کو سن کر مسرور و محظوظ کیا۔ پھر فاکسار نے رحمت عالمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہر طبقہ کے لوگوں اور مخلوق الہی کو جو احسانات و برکات پہنچے ہیں۔ بیان کئے۔ اس جلسہ میں جو بی کے ایک طرف پردہ میں کثیر التعداد مستورات بھی تقاریر سننے کے لئے شامل تھیں۔ حاضرین کو آب نلال پلا یا گیا۔ (مختصر فضل)

ڈیرہ دون میں جلسہ

زیر صدارت بہادر گل حسین صاحب ہندو مسلم معززین کی تقریریں

۷ ارجون - ۱۲ بجے شب کو زیر صدارت خان بہادر گل حسین صاحب اسپیشل مجسٹریٹ منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن مجید و نظم مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ڈاکٹر بانگے لال صاحب نے اپنی نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں پڑھ کر سنائی پہلی تقریر سید مجتبیٰ حسین صاحب ایم۔ اے ایل۔ ایل بی دیکل ڈیرہ دون کی ہوئی۔ دوسری تقریر حافظ محمد اسحق صاحب مولوی فاضل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر ہوئی۔ حاضرین کی تعداد قریباً دو صد تھی۔ ہندو صاحبان بھی شریک جلسہ ہوئے۔ جلسہ کے واسطے مسٹر اوگر سین صاحب بیرسٹریٹ لاڈ رئیس ڈیرہ دون نے اپنا تیار ہال عنایت فرمایا۔ جس کے واسطے تمام جماعت احمدیہ ڈیرہ دون ان کی مشکور ہے۔ (فاکسار غلام نبی)

موضع اسماعیلہ میں جلسہ

۷ ارجون - بعد نماز عشاء جلسہ کیا گیا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے رخصتہ اندازی کی۔ مگر بہت سے لوگ جمع ہو گئے جن کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ (فاکسار امیر اللہ)

نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور دعا کے بعد جلسہ برخواست ہوا۔ حاضرین کی تعداد تین سو کے قریب تھی۔ (فاکسار مختصر خاں)

میانی میں جلسہ

ہندو صاحبانے انعقاد جلسہ میں لاوادی

۷ ارجون کا جلسہ نہایت شاندار و خیر و خوبی سے ہوا۔ بہر تہ کے رئیس ملک سردار خاں صاحب سابق ضلع دارنہر جو نہایت شریف آدمی ہیں۔ صدر جلسہ مقرر ہوئے۔ جلسہ میں شہر کے تمام رؤسا مشرفا ہندو مسلمان شامل تھے۔ بلکہ ہندو صاحبان کی طرف سے ہمیں جلسہ کرائے میں امداد بھی ملی۔ حاجی جلال الدین صاحب میانی۔ سائیں مولوی عبدالرحمن صاحب بھروئی اور مولوی محمد صدیق صاحب میانی کی تقریریں ہوئیں۔ (فاکسار نبی محمد)

مودا با ضلع ہمیر پور میں جلسہ

۷ ارجون ۱۹۲۵ء کو قصبہ مودا با ضلع ہمیر پور میں حسب تحریک حضرت امام جماعت احمدیہ جلسہ زیر صدارت جناب چوہدری محمد یوسف صاحب کے ہوا۔ تعداد حاضرین معمار ڈگر دیہات کی تخمیناً سو ساٹھ تھی جس میں نصف مسلمان اور نصف ہندو تھے۔ برادر محمد شفیع احمدی نے بعد تلاوت سورۃ فاتحہ و نظم برشان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنحضرت کی قربانی پر تقریر فرمائی۔ جناب چوہدری منظور احمد صاحب رئیس مودا با غیر احمدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاکیزہ حالات و آپ کے دنیا پر احسانات پر تقریر کی۔ (منظور احمد)

چنگا بنگیاں میں جلسہ

۷ ارجون ۱۹۲۵ء سات بجے صبح سے لے کر دس بجے صبح تک حسب فرمان و احبب الازعان حضرت امام جماعت احمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوبلی میں چنگا بنگیاں کے ہر طبقہ کے مسلمان اور سکول کے طلباء جمع ہوئے۔ دوران کو رسول کریم

سوئی پت میں جلسہ

۱۴ جون کی رات کو عشاء کے بعد ایک نہایت موزون میدان میں شہر کے فریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے احسانات کے متعلق جلسہ کیا گیا جس میں ہر طبقہ کے مسلمان شامل ہوئے۔ اہل ہنود بھی بہت سے موجود تھے۔ مولوی داد محمد صاحب مدرس اول عربی ایم۔ بی ہائی سکول (اہلسنت) اور مولوی محمد احمد صاحب (اہل تشیع) نے تقریریں فرمائیں۔ جلسہ میں امید سے بڑھ کر لوگوں کی حاضری اور رونق تھی۔ نہایت کامیابی سے ختم ہوا۔ الحمد للہ۔

جناب امام جماعت احمدیہ کا اہتمام اس روز شہر کے تمام نمایاں مقامات پر چسپان کر دیا گیا تھا۔ (درپور ٹر)

مردان اور اس کے مصافات میں جلسہ

۱۴ جون سنہ ۱۳۵۴ زید صدارت انجمن میل میجر نواب اکبر خان صاحب چیف آف ہوتی۔ ان کے باغ میں بعد شام جلسہ منعقد ہوا۔ تعداد حاضرین دو تین سو کے درمیان تھی۔ نثری قوم اہلکار اور کچھ غیر مسلم اصحاب بھی شامل تھے۔

پہلی تقریر جناب میاں محمد یوسف امیر جماعت احمدیہ نے۔ دوسری سرور ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب نے۔ تیسری خان صاحب میاں فضل حق صاحب نے۔ چوتھی صاحب نے۔ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب نے اپنا لکھا ہوا مضمون نہایت عمدہ پیرایہ میں سنایا۔

اسی صبح کے وقت یہاں سے گیارہ میل کے فاصلہ پر موضع ٹکڑ میں جلسہ کیا گیا۔

تحصیل صوابی میں بھی نین جلسے مرزا شریف اللہ خان صاحب احمدی کی ہمت سے منعقد ہوئے۔ ایک میں آپ نے بھی لکچر دیا جس کا سامعین پر اچھا اثر ہوا۔

بالآخر ہم نواب صاحب موصوف کی ہر پائی کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انھوں نے نہایت کشادہ پیشانی سے اپنی جگہ دی۔ فریج پر دیا۔ ادبیتین گھنٹہ کر سی صدارت کو زینت بخشی۔ (چراغ الدین)

دو لمبیاں میں ایک عظیم الشان جلسہ ایسے جلسے کئی بار کئے جائیں

۱۴ جون سنہ ۱۳۵۴ دو لمبیاں میں ایک بہت بڑے جلسہ کا انعقاد ہوا۔ جس میں مسلمانوں کے ہر فرقہ کے علاوہ علماء کے ہندو صاحبان بھی حاضر تھے۔ صبح کے وقت موضع کچولہ

قرآن مجید و نعت خوانی کے بعد مولوی صاحب نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعظ کیا۔ تعداد مرد ماں جلسہ قریب یکصد تھی۔ خاکسار غلام محی الدین۔

پانی پت میں، ابون کا کامیاب جلسہ

مسلمانوں کی متحدہ مساعی کا شاندار نتیجہ ہندو مسلم معززین کی تقریریں

۱۴ جون کو پانی پت میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے متعلق ایک نہایت شاندار اور پر رونق جلسہ درگاہ حضرت بوعلی شاہ قلعہ میں منعقد ہوا۔ جلسہ کی صدارت کے لئے جناب خواجہ سجاد حسین صاحب بی۔ اے ریٹائرڈ انسپکٹر آف سکولز خلیف شمس العلماء مولانا حالی مرحوم کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ ہم نہایت ممنون ہیں کہ خواجہ صاحب محترم نے نہ صرف جلسہ کی صدارت منظور فرمائی بلکہ جلسہ کے انعقاد کے متعلق ہر قسم کی سہولت اور آسانی ہمارے لئے جہتیا کی۔ اور آخر تک نہایت مفید مشوروں سے ہماری امداد فرماتے رہے۔ حسب اعلان رات کے

۹ بجے جلسہ شروع ہوا۔ پہلے تلاوت قرآن مجید کے بعد حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا "سلام" مندرجہ خاتم النبیین نمبر حالی مسلم ہائی سکول کے دو طلباء نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد ایک شیعہ وکیل خواجہ ہتھور علی حیدر صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی نے آنحضرت کی پاکیزہ زندگی پر ایک پر زور لکچر دیا۔ ان کے بعد جناب شیخ محمد یعقوب صاحب نے ایک طویل لکچر لفظ "محمد" کے عجائبات پر دیا۔ بعد ازاں لال صاحب آری نے حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لائفت اور کاموں کے متعلق نہایت تعریف کے ساتھ ایک مختصر لکچر پڑھا جو بہت پسند کیا گیا۔ ان کے بعد جناب سید اشفاق حسین صاحب بی۔ اے۔ بی۔ ٹی (دعویگ) ہسٹریاٹری حالی مسلم ہائی سکول نے حضور صلعم کی پاکیزہ اور مہر زندگی کے متعلق نہایت سیرکن اور دلچسپ اور مدلل تقریر کی۔ زمان بعد جناب صدر کی مختصر تقریر کے بعد جلسہ نہایت خیر و خوبی اور نہایت کامیابی کے ساتھ رات کے فریباً ایک بجے ختم ہوا۔ اختتام پر جناب صدر نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ آئندہ کے لئے ذکر نبوی کے متعلق اس قسم کے جلسوں کا سلسلہ پانی پت میں مستقل جاری رہے گا۔ اور ہر جیسے اسی قسم کے جلسے منعقد کئے جائیں

چوہا سید شاہ مدتہ چیر۔ تنز ال۔ دعولہ۔ ڈولال۔ پادشاہ ڈرالہ۔ دلیپور۔ گہمال۔ ڈہری سیدال۔ ڈویالہ۔ کھوکھر وغیرہ۔ دیہات کے لوگ آتے شروع ہو گئے۔ دسترخویز صدارت جناب ملک غلام محمد خان صاحب جلسہ شروع ہوا۔ مولوی شیخ احمد صاحب تنز ال۔ مولوی کرمد صاحب دو لمبیاں مولوی سید کریم حسین صاحب چوہا سید شاہ۔ اور مولوی لعل شاہ صاحب تنز ال کی تقریریں ہوئیں۔ مسٹر بھگوانداس سکھ تنز ال نے ایک تقریر میں بیان کیا کہ آج کی تقاریر کو سنکر میں بہت خوش ہوں۔ تمام اہل مذاہب کے چاہئے کہ ایک دوسرے پر اعتراضات کرنے کے بجائے اپنے اپنے پائے مذہب کی خوبیوں کو بیان کریں۔ جیسا کہ اس جلسہ میں ہوا۔ اس سے اتحاد بین الاقوام کی بنیاد قائم ہو کر مذہبی تفرقات کا سدھار ہو سکتا ہے۔ جلسہ کے درخواست ہونے کے وقت میں ایک شخص کے مندر سے یہ آواز نکل رہی تھی۔ الحمد للہ۔ اپنی زندگی میں اس مبارک اور بابرکت دن کے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ اب ہر ایک شخص کی یہ منتا ہے کہ سال میں کئی بار ایسے جلسوں کا انتظام کیا جائے۔ ہم اپنے مولوی صاحبان اور دیگر کارکنان جلسہ کے مشکور ہیں۔ جنھوں نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر جلسہ کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے عظیمی۔ سیکرٹری انجمن احمدیہ دو لمبیاں

چکروتہ میں جلسہ

یہ جلسہ ۱۴ جون کو جامع مسجد صدر بازار چکروتہ میں بصدارت جناب ڈاکٹر خورشید احمد صاحب منعقد ہوا۔ جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب امام مسجد نے تقریر کی۔ جناب محمد ظفر حسین صاحب دہلوی سیکرٹری جمیعت ہندو پریزیڈنٹ انجمن مسلم کمیونٹی نے ایک تبلیغی نظم نہایت خوش الحانی اور پرورد لہجہ میں سنائی۔ جناب ہمدی حسن صاحب سٹیٹی انسپکٹر چکروتہ نے حضور کی پاکیزہ زندگی پر روشنی ڈالی۔ جسکو نہ صرف مسلم اصحاب نے پسند کیا۔ بلکہ غیر مسلم دوستوں نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ جلسہ حاضرین کی شہرہ پر تقریر کی گئی۔ علاوہ مختلف فرقہ ہائے اسلام کے غیر مسلم بھی شریک جلسہ تھے۔ مسجد روشنی و فرش قالین سے نہایت اچھی طرح آراستہ کی گئی تھی۔ عبدالحلیم خان

کینٹھان میں جلسہ

۱۴ جون سنہ ۱۳۵۴ بعد دو پہر جلسہ کا انتظام کیا گیا مولوی محمد یوسف صاحب اہمیت کو فاپور سے بلا یا گیا تھا۔ تلاوت

کریں گے۔ حالی مسلم ہائی سکول کے متعدد طلباء نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ بہت سی دلچسپ نظریں اور نقیب لکچروں کے دوران میں حاضرین کو سنا لیا۔ جن سے نہایت ہی حظ حاصل ہوا۔ اور دلچسپی بہت بڑھ گئی۔ اس کے لئے ہم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب حالی مسلم ہائی سکول کے تہ دل سے ممنون ہیں۔

جلسہ میں ہماری توقعات کے بالکل خلاف حاضرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور لوگ اتنی کثرت کے ساتھ اس مبارک جلسہ میں شریک ہوئے کہ تمام وسیع صحن بھر گیا اور ہمیں سخت اندیشہ پیدا ہو چلا تھا۔ کہ مزید آدمیوں کے لئے کہاں گنجائش نکالیں۔ مشیہ اور سستی دونوں حضرات کثرت جلسہ میں شامل ہوئے۔ اہل ہندو اصحاب کی بھی معقول تعداد جلسہ میں موجود تھی۔ ان کے ہم خاص طور پر ممنون ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے کہ ہمیں جلسہ میں اتنی غیر معمولی کامیابی ہوئی۔

سخت ناشکری ہوگی اگر ہم شیخ محمد شجاع الدین صاحب شعلہ نشی طفیل احمد خان صاحب اور ماسٹر سید اشفاق حسین صاحب کا یہاں خاص طور پر شکر یہ ادا نہ کریں۔ جنہوں نے نہایت محنت اور کمال جانفشانی کے ساتھ جلسہ کا سارا کام سارا انتظام خود کیا۔ اور ہمیں اس سے بالکل بے فکر کر دیا۔

پانی پت میں مستورات کا جلسہ

۱۶۔ یہی تاریخ کو مستورات کا بھی ایک جلسہ کرنے کا ارادہ تھا مگر عورتیں درگاہ قلندر صاحب میں مردوں کا جلسہ دیکھنے اور تقریریں سننے کے لئے چلی گئیں۔ اس لئے ۱۷۔ کو عورتوں کا جلسہ ہو سکا۔ دوسرے دن ۱۸۔ جون کو مستورات کا جلسہ زیر اہتمام والدہ محمد احمد محلہ انصار میں منعقد ہوا۔ جس میں آنحضرت کی پاکیزہ زندگی اور حضور کے احسانات اور تعلیم کے متعلق نہایت مؤثر مضامین اور نظمن عورتوں نے پڑھیں۔
(شیخ محمد اسماعیل احمدی)

منڈی وار برٹن ضلع شہ پور میں جلسہ

بتاریخ ۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء کو منڈی وار برٹن ضلع شہ پورہ زیر صدارت مولوی عبدالحمید صاحب جلسہ کیا گیا۔ جس میں کریم صلح کے احسانات و پاکیزہ زندگی و سوا سوا سخنری پر حسب ذیل غیر احمدی اصحاب نے تقریریں کیں۔ حاضرین کی تعداد سوا ایک ہوئی۔ جس میں مسلمان و اہل ہندو و عیسائی صاحبان بھی تھے۔ مولوی محمد عبدالرشید صاحب کتہ ہلالی۔ اخلاق بخیری

پر (۲) مولوی محمد عبدالرشید صاحب کتہ وار برٹن ہندوؤں پر (۳) مولوی عبدالواحد صاحب کتہ کوٹ شاہ محمد پاکیزہ زندگی پر۔ (۴) مولوی عبدالقادر صاحب کتہ فیروز سوا سخنری پر۔ اخیر میں صدر صاحب کی تقریر عام پہلوؤں پر ہوئی۔ کرم الہی سکرٹری انجمن احمدیہ کرپورہ

کھوکھر غربی ضلع گجرات میں جلسہ

۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء کو ایک جلسہ موضع کھوکھر غربی میں منعقد ہوا۔ جس کے صدر مولوی غلام رسول صاحب اہلسنت مقرر ہوئے۔ اس جلسہ میں تمام لوگ گاؤں کے اہلسنت اہل حق اور احمدی شامل تھے۔ اول ملک سلطان علی صاحب یلدار نے تقریر فرمائی۔ بعدہ مولوی غلام رسول صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد پر تقریر کی۔
(فتح علی)

ترتارن میں جلسہ

۱۷۔ جون کا جلسہ ترتارن میں خدائے الہی کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی ہوا۔ چار سو کے قریب حاضرین کی تعداد تھی۔ جس میں ہندو و سکھ صاحبان بھی بکثرت شامل تھے۔ مولوی شیخ عبدالرحمن صاحب وکیل بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ اور حکیم محمد شریف صاحب طبیب کامل و میونسپل کمنشنر اور شیخ عبدالغنی صاحب ایجنٹ سیونگ مشین کمپنی اور مولوی عبداللطیف صاحب ہیڈ ماسٹر ڈسٹرکٹ بورڈ مل کول ترتارن خاص طور پر قابل شکر یہ ہیں۔ جنہوں نے شروع سے آخر تک ہر طرح سے جلسہ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ مولوی عبدالرحمن صاحب و مولانا عبداللطیف صاحب نے تقریریں بھی کیں۔ (بہاول شاہ)

جورہ۔ ضلع گجرات میں جلسہ

۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء بروز اتوار۔ جملہ مسلمانوں کا جلسہ ہوا جس میں پریزیڈنٹ جناب چوہدری محمد حیات صاحب غیر احمدی سفید پوش جورہ کرناٹہ مقرر ہوئے۔ سارا شے سات بجے جناب مولوی محمد حیات صاحب غیر احمدی نے تلاوت قرآن کریم فرمائی۔ بعدہ جناب پریزیڈنٹ صاحب کی اقتصادی تقریر ہوئی۔ جس میں انہوں نے اس جلسہ موضوع پر چند کلمات فرمائے۔ پھر جناب مولوی محمد حیات صاحب غیر احمدی وکیل

تخصیص کھاریاں نے حسب پروگرام تقریر فرمائی۔ جس میں بائبل اغراض جلسہ اور فضائل نبوی۔ اور پاکیزہ زندگی۔ اور احسانات پر تقریر فرمائی۔ اس کے بعد جناب مولوی عبدالرشید صاحب غیر احمدی کی تقریر شروع ہوئی جس میں انہوں نے فضائل شامیل نبوی پر تقریر کی۔ بعدہ حکیم و مولوی محمد عالم صاحب غیر احمدی نے تقریر کی۔

الغرض جلسہ بخیر و خوبی امید سے پڑھ کر کامیاب رہا۔ جلسہ قریباً دو سو نفوس پر مشتمل تھا۔ عبدالرشید احمدی

دولو والی میں جلسہ

۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء کو چوہدری عبدالقادر صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پبلیڈر نے موضع دولو والی تخصیص گوجرانوالہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لکچر دیا حاضرین کافی تعداد میں جمع ہوئے۔ جن میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ۔ ہندو۔ عیسائی بھی تھے۔ تقریریں پنجابی زبان میں ہوئیں۔ سید حسن شاہ صاحب غیر احمدی ساکن دولو والی نے بھی نہایت مفنی خیر تقریر کی۔ جلسہ قریباً چار گھنٹے تک ہوا رہا۔ حاضرین پر بہت اچھا اثر رہا۔ سید محمد یوسف

حافظ آباد میں جلسہ

۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء بجے صبح سے ۱۱ بجے تک پہلا اجلاس اور ۴ بجے شام سے ۷ بجے شام تک دوسرا اجلاس زیر صدارت چوہدری محمد شفیع صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پبلیڈر منعقد ہوا۔ اس میں مختلف اصحاب نے تقریریں کیں حاضری قصبہ و دیہات قریب و جوار سے کافی تعداد میں ہوئی سامعین کا اندازہ ایک ہزار کے قریب تھا۔ اور رسول کریم صلح کے احسانات و قربانیاں و تعلیم پاکیزہ پر تقریریں ہوئیں۔ مولوی عبدالرحمن صاحب۔ چوہدری محمد حیات خاں صاحب احمدی۔ اور مولوی فضل الدین صاحب و چند دیگر اصحاب نے تقریریں کیں۔ جلسہ نہایت کامیاب رہا۔ سکرٹری انجمن احمدیہ

للیانی ضلع شاہ پور میں جلسہ

موضع الیانی میں ۱۷۔ جون ۱۹۳۶ء کو مسجد تلیانوالی میں فضائل نبوی۔ اور اخلاق رسول صلح پر تقریریں کی گئیں۔ لوگوں نے دلچسپی سہیں۔ اور بہت خوش ہوئے۔ غلام محمد احمدی

پوہا ہماراں ضلع سیالکوٹ میں جلسہ

۱۷ جون آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کے بیان کرنے کے لئے جلسہ منعقد ہوا۔ مندرجہ ذیل گاہوں سے لوگ بہ تعداد کثیر ہر ایک مذہب کے یعنی مسلمان ہندو اور عیسائی جمع ہوئے۔ موضع پوہا ہماراں اور موضع گگوئے اور موضع چندر کے موضع پوہگل و موضع منگل شاہو۔ اور مندرجہ ذیل دوستوں نے لیکچر دئے جن کا بفقہل خدا بہت اچھا اثر ہوا۔ فاکس رفین احمد نے آنحضرت کی پاک زندگی اور آپ کی بے نظیر قربانیوں پر حاجی میاں اللہ بخش صاحب و میاں خدا بخش صاحب و چوہدری خدا بخش صاحب و میاں سیف اللہ صاحب و میاں محمد قاسم صاحب و چوہدری کریم بخش صاحب نے آپ کے احسانات پر۔ فاکس رفین احمد از پوہا ہماراں ضلع سیالکوٹ

سٹیھیالی میں جلسہ

۱۷ جون۔ کوپوری پوری کوشش سے جلسہ کا انتظام کیا گیا۔ سامعین کی تعداد ڈیڑھ سو کے قریب تھی۔ چند ایک سکے عیسائی دوست بھی شریک جلسہ ہوئے۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد تقاریر برصداقت چوہدری غلام محمد سفید پوش کی گئیں۔ منشی نور شہید محمد صاحب اور منشی شفیع محمد صاحب کے لیکچر ہوئے۔ جلسہ غیر معمولی طور سے کامیاب ہوا۔ (رپورٹ)

مظفرنگر میں جلسہ

احمد شہد احمد اللہ کہ جلسہ ۱۷ جون بجے شنب کے شروع ہو کر نہایت کامیابی کے ساتھ ۱۲ بجے ختم ہوا۔ حاضرین کی تعداد قریب پانچ سو کے تھی۔ بمقابلہ مسلمانوں کے اہل ہنود اور دیگر آدمی کثرت سے آئے۔ مولوی عبدالخالق صاحب نے فضائل نبوی پر تقریر کی۔ ان کے بعد ایک صاحب غیر احمدی ابراہیم صاحب مختار عدالت نے کثرت از دواج اور اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ پر تقریر کی۔ اور جلسہ بخیر و خوبی دعا پر ختم ہوا۔ جلسہ کے صدر منشی داہر خان صاحب اہل بلوچار تھے۔ جو مذہباً شیعہ ہیں۔ (رپورٹ)

مراد آباد میں جلسہ

۱۷ جون کا جلسہ بخیر و خوبی ہوا۔ قاضی شوکت حسین صاحب آنزیری مجسٹریٹ نے اپنے شوکت باغ میں درس

Digitized by Khilafat Library Rabwah

فردت سخت اور بینہ اور روشنی کا خود انتظام فرمایا۔ حاضرین کی برت کے پانی سے تواضع کی گئی۔ خان بہادر مسعود الحسن صاحب بیرسٹریٹ لار بھی قابل تحسین ہیں۔ اسی طرح مولوی ظفر حسین صاحب واسطی ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ مولوی اشتاق حسین صاحب مختار بھی قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب صاحبان کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ (محمد ایوب خان بہادر لفٹنٹ پنشنر)

عالم پور میں جلسہ

۱۷ جون کو بعد از منشی روڈے خان صاحب مدرس ایک بجے سے لیکر چار بجے تک جلسہ کیا گیا۔ جس میں چوہدری عبدالعزیز صاحب نے فضائل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثر تقریر کی۔ (فاکس رفین احمد)

پھیر و چچی میں جلسہ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی کے ساتھ جلسہ ہوا۔ مجمع قریباً ڈیڑھ سو تھا۔ جس میں احمدی اور غیر احمدی اجابہ شامل تھے۔ پھیر و چچی کے علاوہ گردنواح سے بھی غیر احمدی آجاتے ہوئے تھے۔ (عبدالعزیز)

کھاریاں اور مضافات میں جلسہ

بمقام کھاریاں بعد از چوہدری شاہ محمد صاحب پنشنر سب انسپکٹر پولیس جلسہ ہوا۔ چار پارچے سوا شخصوں کا مجمع تھا۔ مولوی عبدالرحمن صاحب گجراتی احمدی اور مولوی فضل دین صاحب احمدی امیر جماعت کھاریاں اور مولوی غلام حسین صاحب اور بھائی کر تار سنگ صاحب گیانی نے یکے بعد دیگرے تقریریں کیں۔ جلسہ خیر و خوبی سے ختم ہوا۔ سامعین پر اچھا اثر ہوا۔ چوہدری خوشی محمد صاحب ممبر کمیٹی کھاریاں نے جلسہ کے انتظام و قیام میں دلچسپی لی۔

۲۔ موضع بوریا نوالی تحصیل کھاریاں میں مولوی محمد عمر الدین صاحب نے تقریر کی۔ چوہدری فضل داد خان منبر دار دیدہ صدر جلسہ تھے۔ زمین سو کے قریب مرد و عورتوں کا مجمع تھا۔

۳۔ بمقام بھگوال تحصیل کھاریاں ڈاکٹر احمد دین صاحب احمدی کھاریاں اور فضل حسین شاہ صاحب سنی ساکن ملہ تحصیل کھاریاں اور حافظہ اللہ داد صاحب سنی۔ ہر سہ اصحاب نے لیکچر دئے۔ صدر جلسہ ملک نذر دین صاحب زیدار بھگوال تھے۔

اور مجمع قریب ایک ہزار ہندو مسلم مرد و عورتوں کا تھا۔ ۱۳۱

۴۔ موضع دھورہ تحصیل کھاریاں میں مولوی محمد الدین صاحب احمدی نے بعد از چوہدری احمد دین صاحب پنشنر آنزیری کپتان جلسہ میں تقریر کی۔

۵۔ مولوی محمد مختار نبی صاحب وکیل کھاریاں نے جوڑہ میں تقریر کی۔ اور دو اور بھی خواندہ اشخاص نے کچھ بیان کیا۔ کافی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔

۶۔ موضع آڑہ تحصیل کھاریاں میں بعد از چوہدری شیخ نور دین صاحب سنی جلسہ ہوا۔ مقررین چوہدری فضل الہی صاحب احمدی کھاریاں و منشی محمد دین صاحب آڑہ تھے۔ سات بجے سے ساڑھے دس بجے تک تقاریر ہوئیں۔ جمعدار صاحب موصوف کی جلسہ میں دلچسپی قابل داد ہے۔ (علل خان جنرل سیکرٹری انجمن احمدیہ کھاریاں ضلع گجرات)

لمن آباد میں دو رگورتوں میں جلسہ

۱۷ جون کا جلسہ یہاں مردوں کا الگ ہوا۔ اور ستورات کا الگ مردوں کے جلسہ کے تین اجلاس ہوئے۔ اور جلسہ نسوان کا ایک پہلا اجلاس۔ زیر صدارت بابو نظام الدین صاحب (غیر احمدی) ریٹائرڈ انسپکٹر ڈاکھانہ جات منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن اور نظم خوانی کے بعد بابو محمد زبیر صاحب نے پہلے اس جلسہ کے مقاصد بیان فرمائے اور پھر سردار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے چند پہلوؤں پر تقریر کی۔ اور حاضرین کو محفوظ کیا۔ من کے بعد ماسٹر اللہ بخش صاحب نے حضور علیہ السلام کے دنیا پر اخلاقی احسانات کے موضوع پر بہت دلچسپ بیان فرمایا۔ ازاں بعد پرنیڈنٹ صاحب نے لیکچر اور صاحبان کی تقریروں پر پسندیدہ ریمارکس کئے۔

دوسرا اجلاس ۱۷۔ زیر صدارت چوہدری محمد زبیر صاحب خلف چوہدری امام الدین صاحب زبیر اور رئیس امین آباد منعقد ہوا۔ بعد تلاوت قرآن و نظم خوانی کے بابو محمد زبیر صاحب نے ہمارا پاب رسول غیروں میں مستقبل کے موضوع پر تقریر کر کے حاضرین کو خوب شگفتگی کے بعد منشی غلام جیلانی صاحب نے حضور علیہ السلام کے احسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد صادق صاحب مفسرین دوبارہ شراب نوشی کی عاقبت اور اس بدی کا ترک خاتم النبیین نبی افضل پر صکر اس لہجہ میں سنایا۔ کہ بہت مقبول ہوا۔ ازاں بعد ملک عبدالعزیز صاحب امین آبادی حاضرین کو اس جلسہ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اور تمام فرقہ با اسلام کو متحد ہو کر کام کرنے کی تحریک دلائی اور بڑے بڑے چوہدری

مؤثر ہے جس میں اس کی ضرورت کو محسوس کرایا جس کے بعد جلسہ برخواست ہوا ہے

تیسرا اجلاس :- بعد نماز عشاء باونظام اندین صاحب موصوف نے کرسی صدارت کو رونق بخشی۔ ڈاکٹر محمد طفیل صاحب نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر بہت مبسوط مضمون پڑھا۔ ۱۲ بجے سے ڈراپہلے جلسہ دعا پر برخواست ہوا۔ استورات کے جلسہ میں بہت بڑی تعداد تھی ان کے پانچ لیکچر ہوئے۔ (تین احمدی بہنوں کے ایک غیر احمدی بہن کا اور ایک شیعہ بہن کا)۔ اس جلسہ کے انعقاد کے سلسلہ میں ہمارے معزز بھائی ملک محمد صنیعت صاحب کی اہلیہ محترمہ شکرہ کے قابل ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ ایمن آباد کے حالات کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں جلسوں میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اور یہ سب حضرت امانا خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ کی توجہ اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ (فاکس احمد علی)

امراؤتی میں عظیم الشان جلسہ

زیر صدارت امین جی ایس کھار ڈھب کونسل

بانی اسلام نے رواداری کی تعلیم دی ہے

۱۴ جون - بوقت صبح ۸ بجے امراؤتی شہر میں گنیش تعمیر میں جلسہ ہوا جس کے صدر جناب آنر بیل جی۔ ایس کھار ڈھب صاحب ممبر کونسل آن سٹیٹ ہوئے مسلمان اور ہندو اصحاب بکثرت حاضر تھے۔ ذیل کے اصحاب نے لیکچر دیے :-
۱۔ جناب پردیسر آغا صاحب ایم۔ اے
۲۔ جناب سید مظفر حسین صاحب خطیب ایم۔ اے۔ ایل۔ این بی
۳۔ جناب غلام محی الدین صاحب صوفی ایم۔ اے اسٹنٹ انسپکٹر آف سکولز۔
۴۔ جناب سیٹھ حاجی عبدالساحر صاحب مرچنٹ
جلسہ ۸ بجے سے ۱۰ بجے تک ہوتا رہا۔ اور ہر طرح سے کامیاب رہا۔ صدر جلسہ نے افتتاحی تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کی بہت تعریف کی۔ کہ آپ نے بہت رواداری کی تعلیم دی ہے۔ اور غیر مذاہب کے بزرگوں کی تعظیم اور احترام کی تلقین کی ہے۔ اصحاب ذیل نے جلسہ کا انعقاد اور اس کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کی مدد دی۔ ان کے دستخطوں سے ہی تحریک کی گئی اور

اعلانات اور ہینڈلز چھپوا کر شائع کئے گئے۔

- ۱۔ فال صاحب محمد عبدالقادر صاحب پیڈر
 - ۲۔ محمد شرف الدین صاحب پیڈر
 - ۳۔ سیٹھ حاجی عبدالساحر صاحب پیڈر
 - ۴۔ ہدایت علی صاحب پیڈر
- جناب غلام محی الدین صاحب صوفی نے اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں بہت کوشش کی۔ اور اس میں میرے ساتھ ہر طرح معاون و مددگار رہے۔
مقررین اور دیگر سب اصحاب کا جنہوں نے جلسہ کے انعقاد اور اس کو کامیاب بنانے میں مدد کی۔ میں تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں۔ کہ خداوند کریم ان سب کو اجر عظیم دے۔ (خیر الدین)

ہمبولڈ ضلع لہمیانہ میں جلسہ

متعدد دیہات کے لوگوں کا اجتماع

جلسہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و سطر زندگی پر پہلے ۱۴ جون بوقت شب موضع ہمبولڈ ضلع لہمیانہ میں کیا۔ جو نہایت خوش اسلوبی سے ہوا۔ دو گھنٹہ جناب صوفی عبدالقدیر صاحب بی۔ اے نے تقریر کی۔ جسے سامعین نے بڑی توجہ سے سنا۔ ارگور کے دیہات۔ عورت گڈھ۔ رام گڈھ حیات پور۔ بیرساں۔ ہیڈون۔ شیدیاں۔ ہندی پور کے اصحاب کثرت سے شامل تھے۔ علاوہ احمدیوں کے غیر احمدی دیگر مسلم اصحاب کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور آخر میں پریزیڈنٹ صاحب جناب چوہدری علی شیر صاحب ہیڈ ماسٹر نے سب حاضرین کی طرف سے شکر یہ ادا کرتے ہوئے انہار خوشنودی فرمایا۔ اور کیا واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی حفاظت کے لئے ہم سب مسلمانوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جلسہ بخیر و خوبی رات کے ۱۲ بجے ختم ہوا۔ (عبدالرحمن)

کٹھوالی ضلع لائل پور میں جلسہ

۱۴ جون - بعد از نماز مغرب مسجد احمدیہ میں جلسہ کیا گیا۔ حاضرین مرد اور ستورات کی کافی تعداد تھی۔ بخیر و خوبی جلسہ ۱۱ بجے رات کو ختم ہوا۔ حاضرین پر لیکچر کا بہت گہرا اثر ہوا۔ (محمد حسین)

سنگرور ریاست جینڈ میں جلسہ

قصبہ سنگرور ریاست جینڈ میں خدا کے فضل و رحم کے ساتھ ۱۴ جون ۱۹۳۸ء کو جلسہ بڑی شان و شوکت سے ہوا۔ جس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ صاحبان اور اہل ہنود صاحبان شامل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تقریریں کی گئیں۔ (رحمت اللہ)

دھرگ ضلع سیالکوٹ میں جلسہ

زیر صدارت لال رام دھن صاحب

۱۴ جون - ۳ بجے بعد دوپہر لوگ جمع ہونے شروع ہوئے علاوہ مسلمان اصحاب کے گرد و نواح کے ہندو سکھ و عیسائی اصحاب بھی شامل جلسہ ہوئے۔ جن میں لال رام دھن صاحب ساہوکار ڈاکٹر ملکھی رام صاحب دلا دینا ناتھ صاحب مقررین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لال رام دھن صاحب صدر جلسہ منتخب کئے گئے۔ تلاوت قرآن مجید مولوی محمد اسماعیل صاحب حنفی نے نہایت خوش الحانی سے کی اور سید کوثر کی نعت الغصن کے نمبر فاض سے پڑھ کر سنائی۔ بعد میں حکیم فیروز دین صاحب نے قریشی دو گھنٹہ مؤثر تقریر کی۔ بعد میں چوہدری غلام صاحب احمدی ذیلدار روپریڈنٹ انجمن احمدیہ نے مختصر تقریر کی۔ بعد صدر جلسہ لال رام دھن صاحب ساہوکار سکھ ہر کپور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا میں آپ کو اپنے زمانہ کا کامل انسان اور رہنما مانتا ہوں۔ جیسے اور رشی منی اور اوتار گدرے ہیں۔ ویسے ہی آپ تھے۔ اور میں اپنے دل میں آپ کی ویسی ہی عزت سمجھتا ہوں۔ اختتام جلسہ پر سردار بھگت سنگھ صاحب سوڈی سکھ ہر کپور کی تحریری تقریر پڑھی گئی جس میں انہوں نے جلسہ میں شامل نہ ہو سکنے پر معذرت کی۔ (ادرنی کریم صاحب کی تعریف کی ہے) (محمد اسماعیل)

کلا نور میں جلسہ

۱۴ جون جلسہ کیا گیا جس میں ہندو سکھ اور مسلمان اصحاب شامل ہوئے۔ چار پانچ سو کے قریب مجمع تھا۔ نعت خوانی کے بعد تقریریں کی گئیں۔ مرزا مبارک بیگ

کنج شاہ میں شاندار جلسہ

۱۷ جون کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لیکچر دینے کے لئے جلسہ کیا گیا جس میں ہندو صاحبان بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر شیخ اللہ رتھ صاحب جو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں۔ صدر قرار پائے۔ مولوی محمد عبداللہ صاحب چشتی سلیمانی بھی شامل تھے۔ کنجاہ اور مصنافات کے لوگ کافی تعداد میں حاضر ہوئے۔ تین دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر تقریر کی۔ جلسہ ۸ بجے شام کے نہایت امن اور خیر و خوبی کے ساتھ برخواست ہوا۔ (حنایت اشرفاں)

جوڑا سیالان ضلع لاہور میں جلسہ

ضلع کے فضل و کرم سے ۱۷ جون کا جلسہ نہایت شان و شوکت سے ہوا۔ چوہدری دلی محمد صاحب سیال رئیس جوڑا تھے۔ بہت اندر دی۔ اور گاؤں کے زن و مرد جن کی تعداد ساٹھ تین سو کے قریب تھی۔ جلسہ میں شریک ہوئے۔ لیکچر نہایت کامیاب ہوئے۔ صدر چوہدری دلی حق صاحب تھے۔ جناب چوہدری نظام دین صاحب سیال رئیس اعظم جوڑا نے جلسہ کا بہت اچھی طرح سے انتظام کیا۔ (محمد عثمان)

لودہراں میں کامیاب جلسہ

۱۷ جون کو زیر صدارت جناب چوہدری رحمت اللہ صاحب اسٹنٹ سرچین لودہراں غیر احمدیوں کی جامع مسجد کے وسیع صحن میں جلسہ ہوا۔ تلاوت قرآن شریف حافظ عبدالرحمن صاحب نے کی۔ بعد ازاں مولوی محمد سلیم صاحب دستری عبدالحق صاحب نے نظم خوانی کی پھر منشی محمد نواب خاں صاحب پرنسپل ٹیٹن انجمن احمدیہ لودہراں نے تقریر پر افتتاحی کی اور عرضین جلسہ بیان فرمائی۔ فاکسار نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی و پاک تعلیم پر مضمون پڑھا۔ بعد ازاں جناب شیخ محمد سلطان صاحب سیکرٹری تبلیغ نے بھی اسی موضوع پر تقریر فرمائی پھر مولوی عبدالرزاق صاحب نے تقریر فرمائی۔ بعد ازاں جناب مسٹر غلام حسین صاحب پرنسپل نے اس کے بعد پانچویں نے نہایت اعلیٰ تقریر جناب سرور کائنات کے احسانات کے متعلق فرمائی۔ سامعین عیش عیش کرائے۔ یہاں تک کہ

ان کو اپنے وقت سے بہت زیادہ تقریر کرنے کا موقع ملا۔ لیکن پھر بھی سامعین کی خواہش ہی رہی کہ وہ اور بھی تقریر فرمائیں۔ حاضرین کی تعداد کافی تھی۔ اور زیادہ غیر احمدی احباب تھے اور معزز غیر احمدی اہلکار ان بھی شامل تھے۔ مستورات احمدی و غیر احمدی بھی تھیں۔ سب حاضرین کی خواہش کو دیکھ کر صدر صاحب نے پرنسپل صاحب کو اور تقریر کرنے کے واسطے سفارش فرمائی۔ جس کو جناب پرنسپل صاحب نے منظور فرمایا۔ پھر حافظ عبدالرحمن صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر نہایت ہی اعلیٰ مضمون پڑھا۔ حاضرین جلسہ کی تواضع موڈا برت سے کی گئی۔ آخر پر دو دیگر پیشین چاول وہیں حاضرین جلسہ میں تقسیم کئے گئے۔ خداوند کریم کے فضل و کرم سے جلسہ نہایت ہی کامیابی سے ہوا ہے۔ (محمد رضاں)

چک نمبر ۲۷۶ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو جلسہ کیا گیا۔ آبادی کے لوگ جمع ہو گئے۔ صدر جلسہ چوہدری نور محمد صاحب بنائے گئے۔ پیشی عبدالکریم صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پر تاثیر نظم پڑھی۔ اور حکیم عبدالکریم صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی قربانیاں اور آپ کے احسانات پر مضمون پڑھا۔ اس کے بعد سید طفیل محمد صاحب نے اپنی مضامین پر تقریر کی۔ لوگ نہایت شوق سے سنتے رہے۔ جلسہ نہایت کامیاب ہوا۔ (رپورٹس)

چک نمبر ۲۷۲ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو بصدارت راجہ مبارک علی صاحب پرنسپل ٹیٹن زمیندارہ بنک جلسہ منعقد ہوا۔ گاؤں کے اکثر مرد و عورتیں بچے ہندو مسلمان جمع تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریریں ہوئیں۔ جسے حاضرین نے نہایت شوق اور محبت سے سنا۔ (سید فضل محمد شاہ احمدی)

چک نمبر ۲۸۰ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو فاکسار نے موضع چک نمبر ۲۸۰ میں فضائل نبوی بیان کرنے کے لئے جلسہ منعقد کیا۔ گاؤں جنگلی قوم کا ہے۔ تمام جنگلی مسلمان ہندو مرد و عورتیں بچے سب شامل ہوئے۔ اور بڑی توجہ اور شوق سے تقریر سنتے رہے۔ مولوی

سراج الدین صاحب امام مسجد پرنسپل ٹیٹن تھے۔ حاضرین کی تعداد قریباً ایک سو تھی۔ (مولوی نیاز علی رفیہ احمدی)

چک نمبر ۲۷۷ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو فاکسار کے زیر صدارت موضع چک نمبر ۲۷۷ کے چوک میں فضائل نبوی بیان کرنے کے لئے جلسہ منعقد ہوا۔ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لورڈس اسکول نے مضمون پڑھ کر سنایا جو نہایت شوق اور دلچسپی سے سنا گیا۔ تمام لوگ نہایت محفوظ ہوئے۔ (سید محمد حسین شاہ غیر احمدی)

چک نمبر ۲۶۲ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو چک نمبر ۲۶۲ کے چوک میں جناب چرخ الدین صاحب نمبر دار رفیہ احمدی کی سعی و کوشش سے جلسہ منعقد ہوا۔ فاکسار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مضمون پڑھ کر سنایا۔ (عبدالحق)

چک نمبر ۲۷۳ میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو چک نمبر ۲۷۳ علی دال میں بصدارت نظام الدین صاحب نمبر دار گاؤں کے چوک میں جلسہ منعقد ہوا۔ حافظ عبدالرشید صاحب امام مسجد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کی۔ ایک جلسہ اسی گاؤں کی شرقی آبادی میں بھی ہوا۔ (عبداللہ)

پکا اتا میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو کنڈیشن پکا اتا میں جلسہ منعقد ہوا۔ سید محمد حسین شاہ صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر مضمون پڑھ کر سنایا۔ (رحیم بخش)

امروہہ میں جلسہ

۱۷ جون کو حسب اشارت حضرت امام جماعت احمدیہ امروہہ میں دو جلسے کئے گئے۔ ایک محلہ سر اسٹے ہنڈ میں بر مکان مسیح الصبا معارض میں قریباً دو سو آدمی تھے۔ دوسرا بر مکان عبدالسمیع صاحب احمدی سیکرٹری انجمن احمدیہ جس میں قریباً بیس آدمی تھے۔ (رپورٹس)

چک سکندر میں جلسہ

تلاوت قرآن کریم کے بعد نظم اسلام سے نہ بھاگوراہ ہدیٰ ہی پڑھی گئی۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لیکچر مولوی عبدالملک صاحب سیکرٹری انجمن احمدیہ چک سکندر نے سات بجے سے شروع کر کے دس بجے تک دیا۔ حاضرین جلسہ کی تعداد تقریباً چار صد تھی۔ عورتیں مردوں سے زیادہ تھیں۔ (رپورٹ)

بیرچھا ضلع ہوشیار پور میں جلسہ

۱۷ مارچ کو موضع بیرچھا تحصیل دوسرا ضلع ہوشیار پور میں زیر صدارت چوہدری غلام جمیل صاحب صاحب رئیس بیرچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات و اخلاق پر ایک بجے دن سے چار بجے تک تقریریں ہوئیں۔ سامعین کی تعداد تقریباً تین سو تھی جن میں غیر مسلم اصحاب بھی تھے۔ لیکچر مولوی نبی بخش صاحب اجیری احمدی و مولوی دولت علی صاحب غیر احمدی تھے۔ لیکچر دوں کا بلیک پر بہت اچھا اثر ہوا۔ (عطا محترم خاں)

کوٹ کپور میں جلسہ

جلسہ تقریباً ۱۰ بجے شروع ہوا۔ مردوں عورتوں کی تعداد سات سو کے قریب تھی۔ پہلے جامع مسجد کے امام مولوی فضل الرحمن صاحب نے تقریر کی۔ پھر جناب چوہدری خواجہ اسماعیل صاحب احمدی کی تقریر ہوئی۔ چوہدری صاحب نے بلیک سے ایس کوٹے ہوئے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر غور کرنے کے واسطے کہا۔ پھر ماسٹر فقیر اللہ صاحب کی تقریر ہوئی۔ ہمارے ہندو دوستوں نے فرشتہ وغیرہ سے ہماری مدد کی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قاضی محمد کریم صاحب اور سید اشرف حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ (رپورٹ)

جاگو کلاں میں جلسہ

۱۷ جون جاگو کلاں تحصیل پچھلہ ضلع گجرات میں زیر صدارت مولانا مولوی قمر الدین صاحب جلسہ منعقد ہوا جس میں پیر ذریعہ صاحب حنفی ساکن گولیکھی ضلع گجرات نے سیرت النبی کے متعلق دو عظیم فرمایا۔ حاضرین جلسہ میں غیر مذہب (سکھ، ہندو

آریہ سماجی وغیرہ) بھی تھے۔ انتظام وغیرہ میں اہالیان دیہہ نے کافی مدد دی۔ یہ اسلامی جلسہ اس جہالت کے علاقہ میں صورت پہلی دفعہ ہوا۔ اور وہ بھی جناب پیر صاحب ممدوح کی تحریک و تجویز سے۔ (رحمت علی)

موضع کرہل ضلع مین پوری میں جلسہ

۱۷ جون جلسہ کیا گیا جس میں مسلمانوں کے علاوہ اہل ہند بھی شامل ہوئے۔ میر داؤد علی صاحب پیش امام جامع کرہل پریسیڈنٹ منتخب کئے گئے۔ سب سے پیشتر قرآن کریم کا ایک رکوع تلاوت کیا گیا۔ پھر محمد عبدالحمید صاحب نے اپنا ایک مضمون پڑھا۔ آخر میں جناب مولوی محمد عثمان صاحب نے تقریر کی۔ جلسہ قریب گیارہ بجے کے ختم ہوا۔ اور حاضرین جلسہ نہایت محفوظ و متاثر ہوئے۔ (گلزار احمد خاں)

موہنکی میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو موضع موہنکی تحصیل وزیر آباد میں خاکسار اور سید شاہ سوار صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور فضائل نبوی پر تقریریں کیں۔ تعداد سامعین ایک صد نفوس پر مشتمل تھی جن میں کئی ہندو بھائی تھے۔ (غلام حسین)

گوہر پور میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کو جلسہ کیا گیا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح پر مدلل تقریر ہوئی۔ دو گھنٹہ تک جلسہ جاری رہا۔ پریزیڈنٹ جلسہ چوہدری اللہ دتہ صاحب صاحب سفید پوش غیر احمدی ساکن گوہر پور تھے۔ (محمد ابراہیم)

پلوایاں ضلع شاہجہاں پور میں جلسہ

۱۷ جون جلسہ کیا گیا۔ پریزیڈنٹ شیخ سبحانی صاحب غیر احمدی تھے۔ ۷ بجے شام بعد نماز مغرب تلاوت اور نظم خوانی کے بعد خاکسار نے ایک گھنٹہ اخلاق نبوی اور حضور کی پاکیزہ زندگی پر تقریر کی۔ تعداد حاضرین مرد و عورت تخمیناً ۱۰۰ تھی۔ جلسہ نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ ناں بعد غیر احمدی صاحبان نے کچھ شیرینی بھی اپنی خوشی سے تقسیم کی۔ اور ۱۰ بجے شب کے جلسہ درخواست ہوا۔ (احتیاج علی)

نصبہ سباناہ ضلع بلند شہر میں جلسہ

۱۷ جون ۱۹۲۵ء کی شب کو جلسہ منعقد ہوا۔ سامعین کی تعداد کافی تھی۔ ہر سہ مجوزہ مضامین پر تقریریں ہوئیں۔ بچوں نے نظموں پڑھیں۔ جن سے سامعین کافی متاثر ہوئے اللہ تعالیٰ اس اثر کو قائم و ثابت رکھے۔ (عبد الوحید خاں)

دھرم کوٹ بگہ میں جلسہ

ایک سگھ سردار کی طرف سے شہرت پلا یا گیا۔

۱۷ جون گاؤں کے باہر بانج میں جلسہ کیا گیا۔ شہرت کا انتظام سردار ہرنام سنگھ صاحب کی طرف سے تھا۔ پریزیڈنٹ سردار ہرنام سنگھ صاحب تھے۔ ڈھائی سو کے قریب احمدی غیر احمدی۔ ہندو سکھ تھے۔ ڈاکٹر غلام غوث صاحب نے ایک گھنٹہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات پر تقریر کی۔ اس کے بعد مولوی غلام نبی صاحب مدرس بنجوان نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں اور آپ کی پاکیزہ زندگی اور احسانات کو مفصل طور پر نہایت دلچسپ پیرایہ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد ماسٹر فقیر اللہ صاحب غیر احمدی نے ایک نظم پڑھی۔ جو پنجابی میں تھی۔ پھر انہوں نے ایک گھنٹہ آنحضرت کی زندگی پر تقریر فرمائی۔ (مولانا بخش)

موضع پنڈوری میں جلسہ

۱۷ جون لوگوں کو جمع کر کے لیکچر دیا گیا جس میں مول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کئے گئے۔ لوگوں نے دلچسپی سے سنے۔ (محمد اعظم)

نوان پنڈ بیلہ اران میں جلسہ

۱۷ جون جلسہ ہوا۔ حاضرین کی تعداد تین سو کے قریب تھی جس میں مسلمان سکھ۔ چوہدرے۔ ہندو۔ عیسائی۔ ہر مذہب کے آدمی موجود تھے۔ مولوی محمد علی صاحب صدر جلسہ کا ایشیا قابل تعریف ہے جنہوں نے ہندو مسلمانوں کیلئے برکت و شہرت کا حق انتظام اپنی طرف سے کافی طور پر کیا۔ اس جلسہ کا اثر سکھوں پر اچھا ایک سکھ نے کھڑے ہو کر چند کلمات سے اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا اور خوشی ظاہر کی۔ (محمد علی)